

**Comparison of Environmental, Housing, and Socio-Economic Conditions for the Four Sites**

**Matrix 01: Environmental Conditions**

<b>Case Study</b>	<b>Khuda Ki Basti (KKB)</b>	<b>Nawalane (NL)</b>	<b>Fahad Square (FS)</b>	<b>Paposh Nagar (PN)</b>	<b>Labor Square (LS)</b>
<b>Settlement layout</b>	Orthogonal Grid Iron plan with a house cluster layout around central amenities	Grid Iron plan based on the site topography with back to back houses	Part of the Grid Iron plan of Gulzar-e-Hijri. Compound type apartment block	Grid Iron plan with streets on the front and back of houses	Part of Grid Iron plan of the SITE Town with spaces between apartment blocks acting as spill out spaces and streets
<b>Built area</b>	55.62 %	75.68 %	70.66 %	76.61 %	Not Available
<b>Open area (voids which are either open spaces or un constructed plots)</b>	44.68 %	24.32%	29.4 %	23.39 %	Not Available
<b>Noise Level Control (traffic and general noise)</b>	Good	Fair	Fair	Fair	Fair
	As the settlement is located on the outskirts of the city there is no noise pollution	The road facing houses complain of noise pollution generated by traffic and surrounding commercial activities	The road facing apartments have noise pollution problem due to traffic	The road facing houses have noise pollution problem due to traffic	The road facing apartments have noise pollution problem due to heavy industrial area traffic

<b>Air and Ventilation</b>	Good	Poor	Fair	Fair	Fair
	Good air quality due to its location outside the city	High level of carbon monoxide due to area pollution. Poor ventilation because of narrow, congested streets	The road facing apartments complain of carbon monoxide pollution but the apartments opening onto the central compound have access to clean, fresh air	The road facing houses complain of carbon monoxide pollution due to area pollution	The road facing apartments complain of carbon monoxide pollution due to area pollution
<b>Solid waste disposal</b>	Fair	Fair	Good	Fair	Poor
	No garbage dump seen on the streets. Some garbage dumped in open plots. Strong concept of recycling introduced by SAIBAN and a general low level of consumerism leads to less garbage production.	No garbage dump seen on the streets. Some garbage dumped in open plots. Garbage collected through sweepers who take it to collection points. The main problem lies at the collection points because of city level municipal inefficiency to collect garbage on time.	The union of the apartments is responsible for ensuring adequate solid waste disposal. There are certain garbage collection points and overall disposal is adequate	No garbage dump seen on the streets. Some garbage dumped in open plots. Garbage collected through sweepers who take it to collection points. The main problem lies at the collection points because of city level inefficiency to collect garbage on time.	Many garbage dumps seen on the streets. No adequate system of garbage collection. The reliance is on government sweepers who do not collect garbage promptly.

<b>Drainage during rain</b>	Fair	Poor	Fair	Fair	Fair
		The natural slope of the terrain does help the drainage of rain water but the low lying areas become collection points as is the case in the rest of Lyari (The town in which NL is located)			
<b>Water supply</b>	Poor	Poor	Poor	Fair	Poor
	Water supply is inadequate and irregular	Being a low lying area there are issues of water supply	Water is mostly obtained through water tankers for which money is collected by the union from each apartment	Adequate supply by the concerned government agencies	Water supply is inadequate and irregular
<b>Sanitation</b>	Good	Poor	Fair	Good	Poor
	Low cost sanitation model based on the Orangi Pilot Project successfully executed	As it is a low lying area there are issues of adequate drainage	Drainage lines have severe maintenance issues	Adequate maintenance by the concerned government agencies	Drainage lines have severe maintenance issues
<b>Electricity</b>	Fair	Fair	Fair	Fair	Fair
	All the localities have formal electricity connections but they experience frequent power failures as is the case with the rest of the city				

<b>Security of area</b>	Good	Poor	Good	Fair	Fair
	The suburban settlement provides adequate security	There are issues of gang wars	The gated community ensures good security	Adequate security due to the political patronage of MQM that the area enjoys	Although it is a gated community but there are no checks on people entering the area and anyone can walk in but close links with neighbors help in pointing strangers out.
<b>Parking for cars</b>	N/A	Poor	Good	Fair	Fair
	Residents do not mostly own cars. The primary and secondary streets are wide enough to accommodate cars	The primary streets are wide enough to accommodate cars. Cars cannot enter secondary streets.	The compound accommodates all parking requirements.	Some of the residents own car, they are mostly parked on the streets.	The ownership of vehicles is minimal. Few of the residents own motor bikes that are parked on the streets cum compound in front of apartments
<b>Traffic condition</b>	N/A	Poor	N/A	Fair	N/A
	Not applicable as the car ownership and visits are low	Traffic volumes are high during peak hours on the main roads.	Not applicable as it is a gated compound with adequate parking facility	The primary roads get congested during peak hours but the secondary streets are OK	Not applicable as it is a gated area and secondly very few people own vehicles
<b>Landscaping and vegetation</b>	Poor	Poor	Poor	Poor	Poor
	Few scattered tree plantations	Tree plantations on the main roads, the narrow streets have no space for plantations. Some potted plants kept by residents	Individual apartments have some plants, no plantations on community level	Very Few trees	No trees or plantations seen at all



<b>Area Parks</b>	Good	Poor	Fair	Fair	Fair
	3.52 % of the total area is designated for area parks. Some of the area parks have been developed and are in use by the residents	No space for any area parks	No space for any area parks. The cemented compound serves as the play and socializing area. Nearby parks are utilized for different purposes	1.67 % of the total area is utilized as area level park	One park was seen within the boundary wall of the apartment blocks but it was not being utilized and was a ground rather than a park
<b>Dominant land use and consequent street condition</b>	Residential streets are mostly used for recreation and economic and social activities like children playing, parking of carts and socializing	Commercial Use is on the main road and Residential on secondary lanes. The lanes are too narrow for any playing activity to take place	Residential in apartments and playing and socializing in the compound.	Residential streets are mostly used for recreation and economic and social activities like children playing, parking of cars and socializing	Streets in front of the apartments are mostly used as interaction and recreation areas

**Note**

- Good is an indication of above average environmental conditions in the given context.
- Fair is an indication of average environmental conditions in the given context where there are some problems or irregularities.
- Poor is an indication of below average environmental conditions where there are more irregularities and major problems.
- Results of KKB, NL, FS and PN are based on detailed surveys, observations and interviews. The case of LS is based on observations only.

**Matrix 02: Housing Conditions**

Case Study	Khuda Ki Basti (KKB)	Nawalane (NL)	Fahad Square (FS)	Paposh Nagar (PN)	Labor Square (LS)
<b>Average Plot/Apartment size</b>	80 sq. yards (67 sq. meters)	120 sq. yards (100 sq. meters)	81.6 sq. yards (68.2 sq. meters)	66.6 sq. yards (55.7 sq. meters)	61.2 sq. yards (51.2 sq. meters)
<b>Layout of Houses/ Apartments</b>	One to two room layout of <b>single household around a private</b> internal courtyard which is connected to the toilet, kitchen and the staircase. The first floor usually has one to two rooms and roof terrace. ( refer house plans KKB)	Two to three room layout of <b>multiple households around a shared</b> internal courtyard which is connected to the toilet, kitchen and the staircase. The same maybe repeated on the upper floors. ( refer house plans NL)	One or two room layout of <b>single household around a lounge/living area</b> which is connected to the toilet and kitchen. The common staircase and shared courtyard/open space are outside. ( refer apartment plans FS)	Two to three room layout of <b>multiple households around a shared</b> internal courtyard which is connected to the toilet, kitchen and the staircase. The same maybe repeated on the upper floors. ( refer house plans NL)	Two rooms layout of <b>double household around an entry foyer</b> which is connected to the toilet and kitchen. The common staircase and shared street act as spill out spaces.
<b>Average household size</b>	6.7 Mostly Nuclear families	13.56 Mostly Extended families	5.72 Mostly Nuclear families	6.7 Mostly Extended families	10 Mostly Extended families
<b>Average number of families per plot</b>	01	2.7	01	1.5	02
<b>Average number of rooms</b>	03	5.0	03	04	02
<b>Average Built up floors</b>	G+1	G+2	G+6	G+2	G+3
<b>Land value per square yard</b>	PKR 5,000 (\$ 61) per sq. yard for a typical house of G+1, having a total covered area (all floors) of 160 sq yards (133.78 sq meters)	PKR 7,352 (\$ 90) per sq. yard for a typical house of G+2, having a total covered area (all floor) of about 360 sq yards (301.0 sq meters)	PKR. 9,752 (\$ 120) per sq. yard for a typical apartment having a total covered area of 81.6 sq. yards (68.2 sq meters)	PKR 10,000 (\$ 123) per sq. yard for a typical house of G+2, having a covered area of about 200 sq yards (167.2 sq meters)	Not Available
<b>Livability conditions of the locality</b>	<b>Fair to Good</b>	<b>Poor to Fair</b>	<b>Fair to Good</b>	<b>Fair to Good</b>	<b>Poor to Fair</b>
	KKB plots were given at a subsidized rate of PKR 370 (\$4.5) per sq yard. Over time an average family has	NL at the current rate of PKR 7,352 (\$90) per sq yard for a G+2 house provides a rather expensive option for new low	FS at PKR. 9,752 (\$12) per sq. yard for an average apartment having a covered area of about 81.6 sq yards	PN at the current rate of PKR 10,000 (\$120) per sq. yards for a G+2 house of a covered area	The current residents who have mostly inherited the apartments or are sharing it with

	<p>invested about PKR 200,000 (\$2469) per plot and the current market rate has reached to about PKR 5,000 (\$61) per sq. yard. This rate is still an economical one for a 80 sq yards suburban plot option in an otherwise expensive Karachi real estate market.</p> <p>Given the initial KKB subsidy with the possibility of incremental housing and vertical expansion accommodating at least 02 generations, low income communities find it an attractive option.</p> <p>The over all physical and social environments are safe and healthy which are looked upon as assets by the residents.</p> <p>The houses themselves with open walls on 02 sides are fairly well ventilated, with adequate light. The wide streets between plots provide adequate privacy and breathing space.</p>	<p>income communities who are unable to pay so much upfront.</p> <p>The current residents who have mostly inherited the houses or are sharing it with family find it an attractive option as they have invested incrementally and are now owners of at an average 120 sq yards (100 sq meters) city centre plot with a possibility of commercialization and further vertical expansion accommodating their future generations.</p> <p>However, over time the external spaces have been encroached upon, area conditions have worsened and the over all density has increased to an extent where the over all physical and social environment in no longer safe and healthy.</p> <p>Old area ties, family and clan networks, city centre nearness (aspects which are looked upon as assets by the residents) still keeps the residents in the area. Otherwise, the locality and the houses are congested</p>	<p>(68.2 sq meters) provides an economical housing option for lower middle income nuclear families who want to live near the city centre, availing the facilities and nearness to work that the location provides.</p> <p>However, there is no possibility of incremental housing development and horizontal and vertical expansion accommodating any future generations.</p> <p>The external spaces provided are shared by all residents and are generally not very well kept. This does not seem to bother the residents too much as they have access to the surrounding facilities like parks, playground and markets.</p> <p>Old area ties, family and clan networks are not deemed very important by the residents as compared to city centre nearness.</p> <p>The feel that in an urban life and nuclear family set ups apartments offer safe and</p>	<p>of about 66.6 sq yards (55.7 sq meters) provides a rather expensive option for low income communities who are unable to pay so much upfront.</p> <p>The current residents who have mostly inherited the houses or are sharing it with family find it an attractive option as they have invested incrementally and are now owners of an average 66.6 sq yards city centre plot with a possibility of commercialization and further vertical expansion accommodating their future generations.</p> <p>Nearness to the city centre, ownership of a family house, old area ties, family and clan networks (aspects which are looked upon as assets by the residents) keeps the younger generations in the area.</p> <p>The locality has also over time become lower</p>	<p>family do not find it an attractive option as their family sizes have grown and there is no possibility of incremental expansion of the apartments and they cannot afford to buy new property to accommodate their extended families.</p> <p>There are also issues of adequate drainage, solid waste collection, water supply and ventilation.</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>with no open spaces and major security issues such as gang wars.</p> <p>The houses themselves with sometimes 03 shared walls with other houses have bad ventilation and light access and suffer privacy issues.</p>	<p>economical living. They feel that their next generations will follow suit and deal with the restraint of extensions of the dwelling units by moving into another flat.</p> <p>The apartments are fairly well ventilated and have access to light. Privacy is not an issue as there is ample space between two blocks of flats</p>	<p>middle to middle income with mostly professionals and businessmen living here.</p> <p>The houses have been extended both horizontally and vertically encroaching on the back and front streets. This has overall congested the area leaving narrow streets and almost no open spaces. The decrease in the street widths has lead to the blocking of air and light and privacy issues.</p> <p>However, due to the average built up density not exceeding above G + 2 at the moment, the overall density is bearable. If the area grows more vertically and the remaining open spaces have been encroached upon, the area conditions would worsen to an extent where the over all physical and social environment will no longer be safe or healthy.</p>	
--	--	--	--	---	--

<b>Availability of open spaces</b>	Good	Poor	Fair	Poor	Good
<b>Use of Roof</b>	Good	Fair	Poor	Good	Poor
<b>Use of Compound/ Courtyards</b>	Good	Fair	Fair	Good	Streets act as interactive space. There are no formally designed courtyard or compound
<b>Use of Street</b>	Good	Fair	Poor	Fair	
<b>Use of Near by Ground</b>	Fair	Fair	Fair	Fair	Poor
<b>Overall Building Material</b>	Block masonry and Reinforced Cement Concrete	Mix of load bearing and Reinforced Cement Concrete structures	Block masonry and Reinforced Cement Concrete	Block masonry and Reinforced Cement Concrete	Block masonry and Reinforced Cement Concrete
<b>Roofing</b>	Batten tiled sheets	Reinforced Cement Concrete	Reinforced Cement Concrete	Reinforced Cement Concrete	Reinforced Cement Concrete
<b>Flooring</b>	Concrete finish	Tile finish	Porcelain tiles	Tile finish	Concrete finish
<b>Façade treatment</b>	Mostly un plastered	Paint finish	Paint finish	Paint finish	Paint finish
<b>Boundary walls</b>	The boundary walls are raised to 8 feet and more. In some cases, the internal room/enclosure are built using boundary wall as a common/sharing surface boundary wall.	Party walls between adjacent houses. No compulsory open spaces around built units	Compound wall enclosing the entire apartment complex	The boundary walls are raised to 8 feet and more. In some cases, the internal room/enclosure are built using boundary wall as a common/sharing surface boundary wall.	Compound wall enclosing the entire apartment complex
<b>Indicator of Incremental Growth</b>	Yes	Yes	No	Yes	No
	The possibility of incremental growth exists on individual plots but as the settlement is young and the need hasn't arose therefore not many	As it is an old settlement with very strong social ties almost all of the houses have developed incrementally accommodating 2-3	One time development, both by the builder and the individual owner.	The settlement has grown incrementally vertically as the plot sizes are small and the need is there to accommodate growing	One time development

	house extensions are seen as yet. 65% of the residents plan to do further extensions	generations. 53.62% of the residents plan to do further extensions		families. 60%of the residents plan to do further extensions	
<b>Ventilation of houses/ apartment</b>	Fair	Fair	Fair	Fair	Poor
	Ventilation benefit has been accrued in such cases where the orientation of the plot is favorable and internal layout is done accordingly to the proposed design	69.57 % of the respondents believed that kitchens and washrooms are well ventilated and 75.36 % of the respondents thought that bedrooms and lounge are well ventilated	16 % of the respondents believed that the apartments had poor ventilation	Originally planned with front and back streets, the ventilation must have been good, however, with encroachments and resultant narrow streets the ventilation is poor now. In the cases where an internal courtyard still exists , the condition is better	No through ventilation makes the apartment hot, dark and dingy
<b>Privacy</b>	Good	Fair	Fair	Fair	Fair
	As the settlement is a low density area with only ground plus one structure therefore there are no major issues of privacy invasion.	As the residences do not have any compulsory open spaces around them and are constructed in an ad hoc manner, some of the staircases look into the courtyards and terraces of other houses	36 % of the respondents believed that the apartments had privacy issues	The unplanned house extensions have lead to breach of privacy as one neighbor can look into the adjacent houses. But the residents don't seem to be bothered by it and manage through putting curtains or blinds.	Only the ground floor apartments have windows opening on the streets which create privacy problems
<b>House development and maintenance</b>	Good	Fair	Fair	Fair	Poor
	The respondents spent on average PKR 4200 (\$ 52) annually for the maintenance of the houses. 46 % of the respondents answered that	The respondents spent on average PKR 5000 (\$ 61) annually for the maintenance of the houses. 63.77% of the respondents answered that	The respondents spent on average PKR 7574 (\$ 93.5) annually for the maintenance of the apartments. 46% of the	The respondents spent on average PKR 7574 (\$ 93.5) annually for the maintenance of the apartments. 77.7% of the	There were several drainage and sewerage leaks observed

	they maintain through personal savings	they maintain through personal savings	respondents answered that they maintain through personal savings	respondents answered that they maintain through personal savings	
--	---	---	--	--	--

**Note**

- Good is an indication of above average environmental conditions in the given context.
- Fair is an indication of average environmental conditions in the given context where there are some problems or irregularities.
- Poor is an indication of below average environmental conditions where there are more irregularities and major problems.
- Results of KKB, NL, FS and PN are based on detailed surveys, observations and interviews. The case of LS is based on observations only.

### Matrix 03: Social Conditions

Case Study	Khuda Ki Basti (KKB)	Nawalane (NL)	Fahad Square (FS)	Paposh Nagar (PN)	Labor Square (LS)
Average household size	6.7	13.56	5.72	6.7	10
	Extended families	Extended families	Nuclear families	Extended families	Extended families
Average number of children	4.2	6.36	3.64	3.36	4
Average number of school going children	1.7	3.88	1.36	2.0	Not Available
Average number of working members per household	1.8	2.66	2.04	2.04	2
	The average number of working men is 1.3	The average number of working men is 2.46	The average number of working men is 1.72	The average number of working men is 1.72	Mostly men are the bread earners
Average number of Working women per household	0.5	0.2	0.32	0.32	Nit Available
Dominant Age groups	20 to 40 years	20 to 30 years	20 to 30 years	20 to 30 years	30-40 years
	40 % of males between 20 and 30 years and 48 % of females between 30 and 40 years	34.21 % of males and 54.84 % of females between 20 and 30 years	60 % of males between 20 and 30 years and 60 % of females between 40 and 50 years	26..32% of the males and 54.05 % of the females are between the age of 20 to 30 years	



<b>Occupancy Age</b>	5 years	Since birth	6.5 years	25 years	35 years
	50 % of the population has been residing from 04-07 yrs	100 % of the population has been residing since birth	50 % of the population has been residing for 05 to 08 years	40 % of the population residing in the area for the last 50 years and 60% of the population residing for less than 50 years with large percentage (37%) of the population moving in to the locality over the last ten years	
<b>Occupations</b>	40 % skilled labor	40 % private jobs	36 % private jobs	40 % private jobs	Mostly laborers and factory workers
<b>Place of work</b>	Within 0-10 kms	15-20 kms	5-10 kms	5-10 kms	Within 0-10 kms
	41 % works within KKB and another 41 % works in adjoining areas up to a distance of 5-10 kms	52.18 % population working up to a distance of 15-20 kilometers	40 % up to a distance of 05-10 kilometers	40 % of the population working in adjoining Areas	Most of the population is working in the surrounding factories
<b>Place of shopping</b>	23.96% within 2 kms	83 % within 2 kms	52 % more than 2 kms	64 % within 2 kms	Most of the residents shop from nearby weekly markets
<b>Place of recreation</b>	100 % more than 2 kms	97 % more than 2 kms	100 % more than 2 kms	93 % more than 2 kms	100 % more than 2 kms
<b>Day time Availability of Transport</b>	100 %	100 %	100 %	100%	100%
<b>Night time Availability of Transport</b>	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Average Income per Household</b>	PKR. 8000 (\$99)	PKR. 6500 (\$ 98)	PKR. 9500 (\$ 80)	PKR 8000 (\$98)	Not ascertained

<b>Monthly expenditure</b>	PKR. 10,050 (\$124)	Not ascertained	PKR. 11,059 (\$ 136.5)	Not ascertained	Not ascertained
<b>Nature of tenure</b>	95 % ownership	94.20 % ownership	68 % ownership	93.33% ownership	95 % ownership
<b>Usage of open space/ compound</b>	Fair	Not applicable	Good	Fair	Good
	The bigger open spaces are under utilized (only 25% of the residents use it) or not utilized except in the evenings for playing football.	Streets are narrow and mainly used for pedestrian circulation. There are no designed open spaces for interaction of residents.	80% of the residents use the central compound for either socializing or as play area	Streets and nearby parks are used for socializing and as play area	Streets are used for socializing and as play area
<b>Play area for children</b>	Fair	Poor	Good	Fair	Good
	Children normally play on the streets and in the open areas on the neighborhood scale.	50.72% of the children under 14 play in their houses and 59.42% of the residents over 14 play in nearby parks and ground.	The compound serves as the main play area for the children and socializing space for the elders.	40 % of the children play on the streets and 55 % play in the nearby area level park	As there are hardly any vehicles on the streets therefore they are a safe play area for children
<b>Women's socializing area</b>	Fair	Poor	Fair	Fair	Good
	Women use the threshold and space in front of the houses for recreation, economic activities and socializing.	60.87 % of the women face problems with regards to recreation and entertainment spaces because there are no separate entertainment/ recreation areas for them and they are not allowed to interact in non segregated areas	The compound serves as the main socializing space for the women.	89.33 % of the women do not have any problems with regards to non availability of recreation spaces	The streets are the main socializing space for the women.

<b>Community center</b>	Fair	Fair	Fair	Poor	Poor
	The residents were divided equally on the presence of community centre necessary as a social space.	100 % believe that the schools play a vital role in the community developments: in making better human beings 56.52 % answered that there is no community center in the area.	72% of the residents believed that there is requirement for a community center	74.67%of the residents believed that there is no requirement for a community center	There is no provision for any community center
<b>Sense of belonging to the community</b>	Fair	Good	Fair	Good	Fair
	90% of the residents feel strong sense of belonging to the locality. 75% feel this affiliation because of the social support available to them through the NGO SAIBAN.	100 % of the residents have a strong sense of belonging because 97.37% of the residents have been living in the area since childhood and have developed strong social ties	90 % of the residents feel a strong sense of belonging because a high percentage of ownership of the apartments, sense of security because of the gated compound and social ties that have developed over time	94.67% answered they have a strong sense of belonging to the community	People are willing to relocate to a locality where incremental development is possible
<b>Role of CBO/NGO</b>	Good	Good	Fair	Fair	Poor
	The NGO SAIBAN has a very strong presence and helps through health related free facilities, immunization , awareness and income generation programmes.	CBOs in the area help in funerals, lobbying for basic services, admissions in schools, solving conflict with police. One such NGO is Anjuman-e-Naujuwanan-Nawalane	As it is a Muhajir Quami Movement (MQM) dominated area therefore the political party has set up its office in the compound and works towards resolution of the problems of the residents.	CBOs in the area help in funerals, lobbying for basic services, admissions in schools, solving conflict with police.	No CBO or NGO exists in the area

<b>Advantages of location</b>	Fair	Fair	Fair	Fair	Fair
	Ownership (65%) , economical plot option (85%) and safe and good environment (92%) were pointed out as the biggest advantages	47.56 % of the respondents thought of family proximity and social networks \ as the biggest advantage and 37.8 % though of proximity to city centre and work as the biggest advantage	36 % answered safe and good environment	Proximity to city centre and work was pointed put as the biggest advantage of the area (86.67%)	Nearness to workplace
<b>Disadvantages of location</b>	Late infrastructure development (30%) was pointed out as the biggest disadvantage	38.68 % pointed out security issues as the biggest disadvantage and 21.74 % said there were no disadvantages of the location	56 % answered poor infrastructure: non availability of water, electricity, leaking drainage pipes	Poor infrastructure conditions was pointed out as the biggest disadvantage of the area (85.15 %)	Poor infrastructure, scarcity of water and no possibility of incremental development leading to cramped living conditions.

**Note**

- Good is an indication of above average environmental conditions in the given context.
- Fair is an indication of average environmental conditions in the given context where there are some problems or irregularities.
- Poor is an indication of below average environmental conditions where there are more irregularities and major problems.
- Results of KKB, NL, FS and PN are based on detailed surveys, observations and interviews. The case of LS is based on observations only.

### Matrix 04: Physical Conditions

	Khuda Ki Basti		(KKB)		Nawalane		(NL)		Paposh Nagar		(PN)		Fahad Square		(FS)		
<b>Total Area</b>	40.8	acres	16.51	hectares	20.9	acres	8.4	hectares	15	acres	6.07	hectares	1.50	acres	0.607	hectare s	
	197472	sq.yds	165111	sq. meters	101214.24	sq.yd s	84579	sq meters	72986	sq.yds	60702	sq. meters	7454	sq.yd s	6070	sq. meters	
<b>Total no. of plots</b>	1237				769				714		1			248	1		
<b>Average No of Families/ plot</b>	01				2.72				1.5					01			
<b>Average Family Size</b>	6.7				13.56				6.7					5.7			
<b>Average number of people per plot (average no of families per plot x average family size)</b>	6.7				36.88				10.05					5.7			
<b>Total Population (average no of people per plot x total no of residential plots)</b>	8287				28360				7175					1414			
<b>Population Density (total population / total area)</b>	203	ppl per acres	555	ppl per hectare	1356	ppl per acre	3376	ppl per hectare	478	ppl per acre	1182	ppl per hectare		942	ppl per acre	2329	ppl per hectare
<b>Total Built up Area-GROUND FLOOR</b>	23.06	acres	9.33	hetares	15.4	acres	6.23	hectares	12.09	acres	4.89	hectares		1.06	acres	0.42	hectare s
<b>Total built up area ALL FLOORS</b>	30.9	acres	7.37	hectares	35.87	acres	14.51	hectares	23.36	acres	9.45	hectare		5.3	acres	2.14	hectare s
<b>Total open area</b>	17.74	acres	7.37	hectares	5.4	acres	2.18	hectares	2.91	acres	1.17	hectare		0.44	acres	0.18	hectare s
<b>No of plots/appts. per acre</b>	34.30	plots per acre	13.72	hectares	36.8	plots per acre	90.4	hectares	47.6	acre	117.6	hectare		202	apart ment per	500 acre	Appts per hectare

	sq.meters	no.of plots	% of area as developed	% of total area as 'planned'	sq.meters	No of Plots	% of area as developed	sq.meters	No of Plots	% of area as developed				No of Apts.	% of area		
<b>LANDUSE</b>																	
<b>Schools</b>		12	3.65%			2	2.32%		6	<b>2.60%</b>							
<b>Amenities</b>		9	2.86%			6	1.81%		5	2.85%							
<b>Residential</b>		921	40.27%			606	60.5%		578	60.5%				248			
<b>Residential+ Commercial</b>		145	7.14%			93	10.65%		127	6.66%				56	70.6%		
<b>Commercial</b>		14	1.85%			1	0.02%			4%							
<b>Open spaces/ parks</b>		12	7.24%			1	0.12%		1	4%							
<b>Empty Plots</b>			1.85%				5.1%			3.36%					0.0%		
<b>BUILT / OPEN</b>																	
<b>Total built up area %</b>			55.62%				75.68%			76.61%					70.66%		
<b>Total open area%</b>			44.68%				24.81%			23.39%					29.33%		
<b>Total Area</b>			100%				100%			100%					100%		

	area in sq. meters		% by area as developed		area in sq. meters		% by area as developed		area in sq. meters		% by area		area in sq. meters		% by area		
<b>CIRCULATION</b>																	
<b>Total Circulation</b>	10923.23745		<b>35.60%</b>		17591.70		<b>19.61%</b>		2089.14		<b>16.03%</b>		2525.11		<b>29%</b>		
<b>1- Pedestrian*1</b>	-		<b>19.1 %</b>				<b>9.75%</b>				<b>3.7%</b>				<b>02%</b>		
<b>2- Vehicular*2</b>	-		<b>16.5%</b>				<b>9.86%</b>				<b>12.33%</b>				<b>27%</b>		

\*1: Pedestrian spaces include streets being used for pedestrians, cycles and motorcycles of width variation from 2'-6" (.75 meters) minimum to 8'-0" (2.42 meters). These are usually not wide enough for emergency vehicles like ambulances and fire engines.

\*2: Vehicular spaces include those for public transport as well as those for cars and other motorized traffic. These are usually used by pedestrians as well simultaneously.

<b>Builtup Density</b>	area in sq. meters	no.of plots	Built floor area as % of the total ground area		area in sq. meters	no. of plots	% by area as developed		area in sq. meters	no. of plots	% by area		area in sq. meters	no.of apts.	% by area as developed		
<b>Total Case Study Area</b>																	
<b>Ground</b>	108816.74		<b>40%</b>		15882.01		<b>16%</b>		6416.16		<b>7.93%</b>		785.00		<b>1%</b>		
<b>Ground + 1</b>	19432.20		<b>14%</b>		33672.78		<b>69%</b>		22014.78		<b>54.40%</b>		0.00		<b>0%</b>		
<b>Ground + 2</b>	6456.30		<b>7%</b>		23983.61		<b>74%</b>		74901.75		<b>73.63%</b>		438.07		<b>6%</b>		
<b>Ground + 3</b>			<b>0%</b>		45939.13		<b>19%</b>		3426.68		<b>16.94%</b>		0.00		<b>0%</b>		
<b>Ground + 4</b>			<b>0%</b>		1112.67		<b>5.69%</b>		0.00		<b>0.00%</b>		1841.31		<b>309%</b>		
<b>Ground + 5</b>			<b>0%</b>		412.00		<b>0.26%</b>		0.00		<b>0.00%</b>		0.00		<b>0%</b>		
<b>Total</b>	<b>134705.234</b>		<b>61%</b>		<b>12410.48</b>		<b>184%</b>				<b>152.84%</b>		<b>3064.38</b>		<b>316%</b>		
<b>Length of sewer drain (rft)</b>	<b>6363.64</b>					<b>20189</b>			<b>7409</b>				<b>9484</b>				
<b>Length of water line (rft)</b>	<b>6363.64</b>					<b>20189</b>			<b>7409</b>				<b>9484</b>				

**Matrix 05: Physical Comparisons with New Proposal**

	<b>Khuda Ki Basti</b>		<b>Nawalane</b>		<b>Paposh Nagar</b>		<b>Fahad Square</b>	
	<b>Existing</b>	<b>Proposed</b>	<b>Existing</b>	<b>Proposed</b>	<b>Existing</b>	<b>Proposed</b>	<b>Existing</b>	<b>Proposed</b>
<b>Total Area</b>	40.8 acres (16.51 hectares)		20.9 acres (8.4 hectares)		15 acres (6.07 hectares)		1.50 acres (0.607 hectares)	
<b>Total no. of plots</b>	1237	2112	769	1000	714	777	248	171
<b>Average Family Size</b>	6.7 persons	6.7 persons	13.56 persons	13.56 persons	6.7 persons	6.7 persons	5.7 persons	5.7 persons
<b>Number of families per plot</b>	01	02	2.72	02	1.5	02	01	01
<b>Average number of people per plot</b>	6.7 persons	13.4	36.8 persons	27.0 persons	10.05 persons	13.4 persons	5.7 persons	5.7 persons
<b>Total Population (Residential)</b>	8287 persons	28300 persons	28299 people	27000 persons	7175 persons	10411 persons	1414 persons	975 persons
<b>Population Density (total population / total area)</b>	203 ppl per acre 502 ppl per hectare	693 ppl per acre 1714 ppl per hectare	1356 ppl per acre 3376 ppl per hectare	1291 ppl per acre 3214 ppl per hectare	478 ppl per acre 1182 ppl per hectare	694 ppl per acre 1715 ppl per hectare	942 ppl per acre 2329 ppl per hectare	650 ppl per acre 1605 ppl per hectare



<b>Average residential plot size</b>	80 sq. yards (67 sq. meters)	56 sq. yards (47.0 sq. meters)	120 sq. yards (100 sq. meters)	56 sq. yards (47.0 sq. meters)	81.6 sq. yards (68.2 sq. meters)	56 sq. yards (47.0 sq. meters)	66.6 sq. yards (55.7 sq. meters)	
<b>Cost of Land per sq. yds.</b>	PKR 5000 (\$ 61) per sq. yards for an average 80 sq. yds. (67 sq. meter) house of G+1.	PKR 5000 (\$ 61) per sq. yards for an average 56 sq. yds. (47 sq. meter) house of G+2.	PKR 7352 (\$ 90) per sq. yards for an average 120 sq. yds. (100 sq. meter) house of G+2.	PKR 7352 (\$ 90) per sq. yards for an average 56 sq. yds. (47 sq. meter) house of G+2.	PKR 10,000 (\$ 123) per sq. yards for an average 66.16 sq. yds. (55.73 sq. meter) house of G+2.	PKR 10,000 (\$ 123) per sq. yards for an average 56 sq. yds. (47 sq. meter) house of G+2.	PKR 9752 (\$ 120) per sq. yards for an average 81.6 sq. yds. (68 sq. meter) house of G+2.	
<b>Cost of Unit</b>	Overall covered areas = 160 sq. yds (134 sq. meter). Overall cost = RKR 800,000 (\$ 9,876)	Overall covered areas = 168 sq. yds (141 sq. meter). Overall cost = RKR 840,000 (\$ 10,370)	Overall covered areas = 360 sq. yds (302 sq. meter). Overall cost = RKR 26,46,720 (\$ 32,675)	Overall covered areas = 168 sq. yds (141 sq. meter). Overall cost = RKR 12,35,136 (\$ 15,248)	Overall covered areas = 200 sq. yds (168 sq. meter). Overall cost = RKR 1,998,000 (\$ 24,666)	Overall covered areas = 168 sq. yds (141 sq. meter). Overall cost = RKR 16,80,000 (\$ 20,740)	Overall covered areas = 81.6 sq. yds (68 sq. meter). Overall cost = RKR 7,95,763 (\$ 9,824)	
<b>LANDUSE</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	
<b>Residential</b>	<b>40.27</b>	<b>55</b>	<b>60.5</b>	55	<b>60.5</b>	55	<b>70.6</b>	
<b>Residential cum Commercial</b>	<b>7.14</b>		<b>10.65</b>		<b>6.66</b>		<b>0</b>	
<b>Commercial</b>	<b>1.85</b>	<b>5</b>	<b>0.02</b>	5	<b>4</b>	5	<b>0</b>	
<b>Parks (area level, neighborhood parks)</b>	<b>7.24</b>	<b>8</b>	<b>0.12</b>	10	<b>4</b>	10	<b>0</b>	
<b>Amenities</b>	<b>2.86</b>	<b>4</b>	<b>1.81</b>	4	<b>2.85</b>	4	<b>0</b>	
<b>Educational</b>	<b>3.19</b>	<b>4.5</b>	<b>2.32</b>	4	<b>2.60</b>	4	<b>0</b>	
<b>Empty Plots</b>	<b>1.85</b>	<b>0</b>	<b>4.98</b>	0	<b>3.36</b>	0	<b>0</b>	

<b>Total Circulation (Roads &amp; Streets)</b>	<b>35.60</b>	<b>23.5</b>	<b>19.6</b>	22	<b>16.03</b>	22	<b>29.4</b>	
<b>BUILT / OPEN</b>								
<b>Total Builtup Area</b>	<b>55.62</b>	<b>68.5</b>	<b>75.68</b>	68	<b>76.61</b>	<b>68</b>	<b>70.6</b>	
<b>Total Open Area</b>	<b>44.6</b>	<b>31.5</b>	<b>24.32</b>	32	<b>23.39</b>	<b>32</b>	<b>29.4</b>	
<b>Total Road Length (In Rft./rm)</b>	<b>14000ft/4267.2m</b>	<b>12600ft/3840.48m</b>	<b>15120ft/4608.57m</b>	11278ft/3437.53m	<b>12000ft//36576m</b>	7985ft/2433.82m	<b>2747ft/837.28m</b>	
<b>Total Sewerage Line Length (In Rft./rm)</b>	<b>16,200ft/4937.76m</b>	<b>13600ft/4145.28m</b>	<b>17000ft/5181.6m</b>	12,400ft/3779.52m	<b>13,400ft/5913.12m</b>	8950ft/2727.96m	<b>3075ft/937.26m</b>	
<b>Total Water Lines Length (In Rft./rm)</b>	<b>15800ft/4815.84m</b>	<b>13000ft/3962.4m</b>	<b>16800ft/5120.64m</b>	12000ft/36576m	<b>13200ft/4023.36m</b>	8620ft/2627.376m	<b>2900ft/883.92m</b>	
<b>Cost of Roads Per Rft.</b>	<b>6790</b>	<b>3575</b>	<b>11790</b>	6766	<b>10100</b>	6166	<b>7491</b>	
<b>Cost of Sewerage and water supply Per plot (Rs) Rft</b>	<b>6500ft/1981.2m</b>	<b>3750ft/1143m</b>	<b>10988ft/3349.14m</b>	7320ft/2231.13m	<b>9313ft/2838.6m</b>	6783ft/2067.45m	<b>6789ft/2069.28m</b>	
<b>Cost of roads per plot (Rs)</b>	<b>6790</b>	<b>3575</b>	<b>11790</b>	6766	<b>10100</b>	6166	<b>7491</b>	
<b>Savings per plot roads sewerage and water(Rs)</b>		<b>3215 2750</b>		<b>5024 3668</b>		<b>3934 2530</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>13290</b>	<b>5965</b>	<b>22778</b>	<b>8692</b>	<b>19413</b>	<b>6464</b>	<b>14280</b>	






△ LOCATION OF KHUDA KI BASTI 3 IN KARACHI

▽ KHUDA KI BASTI 3 IN ITS IMMEDIATE CONTEXT



DRAWING TITLE:  
LOCATION PLAN /  
CONTEXT

CASE  
KHUDA KI BASTI 3  
PHASE II



▽ AREA AROUND KHUDA KI BASTI 3

△ PHASE II, KHUDA KI BASTI 3 AS PLANNED



DRAWING NO.:  
KKB - 01

DATE:  
NOVEMBER, 2008  
REVISED:  
JUNE, 2009

SCALE:  
NTS













ORIENTATION

APPENDIX 4.1.1



# APPENDIX 4.1.2

## SCHEDULE OF LEGENDS

	<b>RESIDENTIAL</b>	40.27%
	<b>RESIDENTIAL + COMMERCIAL</b> HOUSES WITH SHOPS CATERING THE NEIGHBOURHOOD, INCLUDING GENERAL STORES, TAILORS, BUTCHERS, BAKERY, MILK SHOPS, TANDLOOR, AUTO/BICYCLE REPAIRS AND PARTS, HARDWARE SHOPS	7.14%
	<b>RESIDENTIAL + INDUSTRIAL</b> HOUSES WITH SMALL INDUSTRIES SUCH AS, MAJOR WALKS, FABRIC PRINTING, POTTERY	
	<b>COMMERCIAL</b> (INCLUDING NEIGHBOURHOOD LEVEL COMMERCE) CATERERS AND DECORATORS, GARAGE	1.85%
	<b>EMPTY PLOTS</b>	1.85%
<b>AMENITIES</b>		
	<b>SCHOOLS (FORMAL -</b> RUN BY EXPERIENCED INDIVIDUALS OR ORGANIZATIONS)	3.19 %
	<b>SCHOOLS (INFORMAL -</b> SMALL SCALE RUN BY PRIVATE INDIVIDUALS )	
	<b>MEDICAL FACILITIES</b>	2.86%
	<b>RELIGIOUS</b>	
	<b>PLANNED GREEN SPACES</b>	7.24%
<b>CIRCULATION</b>		
	<b>PEDESTRIAN CIRCULATION</b>	19.1%
	<b>VEHICULAR CIRCULATION</b> (ACCESSIBLE BY PEDESTRIANS AND MOTORIZED TRAFFIC (CARS, RICKSHAWS, CYCLES AND MOTORCYCLES))	16.5%
	<b>VEHICULAR - PUBLIC TRANSPORT</b> (BUS ROUTE)	
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>



### LAND USE- EXISTING




DRAWING TITLE: LAND USE- EXISTING  
 DRAWING NO: KKB - 03  
 SCALE: 1" = 1'-0"  
 DATE: NOVEMBER, 2008  
 REVISED: JUNE, 2009  
 CASE: KHUDA KI BASTI (KKB) 3, PHASE 2




ORIENTATION

TOTAL UNITS: 1237 UNITS  
 EXISTING DENSITY (Residential) 203 PPL PER ACRE


# APPENDIX 4.1.3



DRAWING TITLE:	HOUSE NO.1 CASE STUDY
DRAWING NO:	KKB - 8a
SCALE:	3/32" = 1'-0"
DATE:	NOVEMBER, 2008
CASE:	KHUDA KI BASTI (KKB) 3, PHASE 2
ORIENTATION	

PLANNING TYPE: ROW HOUSING  
 AREA OF PLOT: 80 SQ.YARDS

# APPENDIX 4.1.4



PLANNING TYPE: ROW HOUSING  
 AREA OF PLOT: 80 SQ. YARDS

DRAWING TITLE: HOUSE NO.2 CASE STUDY

DRAWING NO: KKB - 8b

SCALE: 3/32" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008

CASE: KHUDA KI BASTI 3,  
 PHASE 2



ORIENTATION





KHUDA KI BASTI - 3(KKB-3)			
	KBCA* REGULATIONS FOR LOW INCOME APARTMENTS	EXISTING CONDITIONS : LOW INCOME HOUSES	REMODELLED VALUES : LOW INCOME HOUSES
AREA in Acres / Hectares	As per site	46.8 / 16.32	46.8 / 16.32
Housing Type	Can vary	Low Income Houses on 80 sqft / 47 m <sup>2</sup> (non-teno)	Low Income Houses on 58 sqft / 47 m <sup>2</sup>
NO OF RESIDENTIAL UNITS	Can vary	1237	1910
PERSONS PER PLOT	Can vary	6.7	15
DENSITY per Acre / Hectare	650 / 1625	261 / 582	502 / 1255
LANDUSE %			
Residential	35	49.27	35
Commercial	5	1.85	5
Residential uses	-	7.14	-
Commercial	-	-	-
Openy Parks	-	1.25	-
Parks and Playgrounds	10	7.24	8
Public Use Amenities	5	2.86	4
Education	5	2.19	4.5
Roads	22	35.6	22.5

\* Karachi Building Control Authority

- RESIDENTIAL
- PARK
- COMMERCIAL
- EDUCATION
- AMENITY


DRAWING TITLE: CONCEPTUAL REMODELLING

DRAWING NO: PRO- 01

SCALE: NTS


DATE: JANUARY 2010

CASE: KHUDA KI BASTI 3 PHASE II






# APPENDIX 4.2.1



△ AREA AROUND NAWALANE




△ NAWALANE IN ITS IMMEDIATE CONTEXT




△ LOCATION OF NAWALANE IN KARACHI

DRAWING TITLE: LOCATION PLAN / CONTEXT- EXISTING	CASE MEHRAB KHAN ESSA KHAN ROAD, UC 11, NAWALANE, LYARI (NL)	DATE: NOVEMBER, 2008	DRAWING NO.: NL - 01	ORIENTATION
		REVISED: JUNE, 2009		





# APPENDIX 4.2.2



TOTAL RESIDENTIAL PLOTS: 699  
 TOTAL COMMERCIAL PLOTS: 1 UNITS  
 EXISTING DENSITY 1356 PEOPLE PER ACRE

## SCHEDULE OF LEGENDS

	RESIDENTIAL	60.5%
	RESIDENTIAL + COMMERCIAL HOUSES WITH SHOPS, CATERING THE NEIGHBORHOOD, INCLUDING, GENERAL STORES, PCO AND STATIONERS TAILORS BUTCHERS BAKERY MILK SHOPS TANDOOR AUTOS/CYCLE REPAIRS AND PARTS HARDWARE SHOPS	10.85%
	RESIDENTIAL + INDUSTRIAL HOUSES WITH SMALL INDUSTRIES SUCH AS: MASONRY BLOOMS FABRIC PRINTING POTTERY	0.2%
	COMMERCIAL CATERERS AND DECORATORS GARAGE	4.98%
	EMPTY PLOTS (DEMOISHED HOUSES)	

### AMENITIES

	SCHOOLS (FORMAL)	2.21%
	SCHOOLS (INFORMAL - EVENING STREET SCHOOLS RUN BY THE EDUCATED AREA YOUTH)	0.11%
	MEDICAL FACILITIES	1.81%
	RELIGIOUS (THIS INCLUDES MARRIAGESAM & PLAYSPACE FOR CHILDREN BESIDES A MOSQUE IN SOME CASES)	0.12%
	PARKS AND PLAYGROUNDS	

### CIRCULATION

	PEDESTRIAN CIRCULATION (WALKWAYS, FOOTPATHS, MOTORCYCLES, CYCLES AND IN SOME CASES RICKSHAWS)	9.75%
	VEHICULAR CIRCULATION STREET IS ACCESSIBLE BY PEDESTRIANS AND MOTORIZED TRAFFIC (CARS, RICKSHAWS, CYCLES, AND MOTORCYCLES)	9.85%
	Road width- PUBLIC TRANSPORT (BUS ROUTE)	

### TOTAL

100%

## LAND USE- EXISTING

DRAWING  
TITLE:

DRAWING  
NO. NL - 03


SCALE: 1/192" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008  
 REVISED: JUNE, 2009


CASE: MEHRAB KHAN ESA KHAN ROAD, UC 11,  
 NAWALANE, LYARI (NL)

ORIENTATION

# APPENDIX 4.2.3



## SCHEDULE OF LEGENDS

	% Built up density	Area in acres
	GROUND	3.17
	GROUND +1	13.43
	GROUND +2	14.35
	GROUND +3	3.76
	GROUND +4	1.11
	GROUND +5	0.05
<b>TOTAL BUILT UP DENSITY OF CASE STUDY AREA</b>		<b>35.87</b>
TOTAL CASE STUDY AREA		20.9 acres

DRAWING TITLE: BUILTUP DENSITY- EXISTING

DRAWING NO: NL - 04a

SCALE: 1" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008

REVISED: JUNE, 2009

CASE: MEHRAB KHAN ESA KHAN ROAD, UC 11, NAWALANE, LYARI (NL)



ORIENTATION



# APPENDIX 4.2.4



GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

SECOND FLOOR

THIRD FLOOR

ROOF PLAN

PLANNING TYPE: ORGANIC GROWTH  
 AREA OF PLOT: 120 SQ. YARDS



SECTION

DRAWING TITLE:	HOUSE CASE STUDY 1		
DRAWING NO.:	NL - 08a	SCALE:	1/16" = 1'-0"
DATE:	NOVEMBER, 2008		
CASE:	MEHRAB KHAN ESA KHAN ROAD, UC 11, NAWALANE LYARI		
ORIENTATION			







▽ LOCATION OF PAPOSH NAGAR IN KARACHI



▽ PAPOSH NAGAR IN ITS IMMEDIATE CONTEXT

▽ AS PER PLAN OF PAPOSH NAGAR, PREPARED BY KDA IN THE 1950S

# APPENDIX 4.3.1

## KHILAFAT CHOWK



DATE: NOVEMBER, 2008  
REVISED: JUNE 2009

DRAWING NO.: PN - 01

SCALE: NTS

ORIENTATION

DRAWING TITLE: LOCATION PLAN / CONTEXT- EXISTING	CASE PAPOSH NAGAR (PN), KARACHI	DRAWING NO.:	PN - 01
		SCALE:	NTS

DATE: NOVEMBER, 2008 REVISED: JUNE 2009	DRAWING NO.: PN - 01	ORIENTATION
	SCALE: NTS	













# APPENDIX 4.3.2

TOWARDS  
KHILAFAT  
CHOWK

TOWARDS  
ORANGI NALA

TOWARDS  
NAZIMABAD  
NO.2

## SCHEDULE OF LEGENDS

	RESIDENTIAL	60.5%
	RESIDENTIAL + COMMERCIAL GENERAL STORES PCO AND STATIONERS TAILORS BUTCHERS BAKERY TALK GROUPS AUTO/BICYCLE REPAIRS AND PARTS HARDWARE SHOPS	10.61%
<b>AMENITIES</b>		
	SCHOOLS	2.60%
	WATER PUMP	
	MEDICAL FACILITIES	2.85%
	RELIGIOUS	
	PARKS AND PLAYGROUNDS	4%
<b>CIRCULATION</b>		
	EMPTY PLOTS	3.36%
	PEDESTRIAN CIRCULATION	3.7%
	VEHICULAR CIRCULATION (ACCESSIBLE FOR PUBLIC TRANSPORT & ALL OTHER MOTORIZED TRAFFIC)	12.33%

TOTAL RESIDENTIAL PLOTS: 714 UNITS  
EXISTING DENSITY RESIDENTIAL 478 PEOPLE PER ACRE

DRAWING TITLE: LAND USE- EXISTING

DRAWING NO: PN - 03

SCALE: 1" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008  
REVISED: JUNE 2009

CASE: PAPOSH NAGAR (PN),  
KARACHI



ORIENTATION



# APPENDIX 4.3.3

TOWARDS  
KHILAFAT  
CHOWK

TOWARDS  
NAZIMABAD  
NO.2



## SCHEDULE OF LEGENDS

	% Built up density	Area in Acres
	GROUND	1.17
	GROUND +1	8.05
	GROUND +2	11.63
	GROUND +3	2.51
<b>TOTAL BUILT UP DENSITY IN CASE STUDY</b>		<b>152.84 %</b>
<b>TOTAL CASE STUDY AREA</b>		<b>15</b>

DRAWING TITLE: **BUILT UP DENSITY- EXISTING**

DRAWING NO: **PN - 04**

SCALE: **1/128" = 1'-0"**

DATE: **NOVEMBER, 2008**  
REVISED: **JUNE 2009**

CASE: **PAPOSH NAGAR (PN), KARACHI**




ORIENTATION




# APPENDIX 4.3.4




GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



SECTION AA'



SECTION BB'




DRAWING TITLE: HOUSE CASE STUDY 01

DRAWING NO: PN - 08a

SCALE: 1/16" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008

CASE: PAPOSH NAGAR (PN), KARACHI



ORIENTATION

PLANNING TYPE: ROW HOUSING -  
KDA PLANNING EVOLVED BY PEOPLE  
AREA OF PLOT: 66 SQ. YARDS

# APPENDIX 4.3.5

## PAPOSH NAGAR

ACTUAL NO OF UNITS (13'X39')

REQUIRED NO OF UNITS (13'X39') AS PER RBCA LANDUSE %

PROPOSED LANDUSE %

777

RECA Landuse %	Proposed Landuse %	RESIDENTIAL * COMMERCIAL 60.5%	739 87.2
RESIDENTIAL 55%	55%	RESIDENTIAL * COMMERCIAL 60.5%	739 87.2
AMENITIES 4%	4%	AMENITIES 4%	53.7 63.9
EDUCATION 3%	3%	EDUCATION 4%	40.3 40
PARKS 8%	8%	PARKS *	107.5 108.6
ROAD 25%	25%	ROAD *	335.025 360

\* NOTE: AS PER RESEARCH RESULTS;

- 1) THE RESIDENTIAL AND COMMERCIAL LANDUSE IN LOWER INCOME SETTLEMENTS IS NOT SEGREGATED
- 2) THE ROAD AND PARK AREAS IN LOWER INCOME SETTLEMENTS CAN BE COMBINED AS STREETS FORM THE FIRST LEVEL OF PUBLIC SPACE.

TOTAL:

72600 SQ.YD/ 60702 square meters  
 15 ACRES/6.07 HA  
 1343.5 # (13'X39')

DRAWING TITLE: CONCEPTUAL RE-MODELLING

DRAWING NO: 00

SCALE: NTS

DATE: MAY, 2009

CASE: PAPOSH NAGAR



ORIENTATION

RESIDENTIAL  
PARK  
COMMERCIAL  
EDUCATION  
AMENITY



EXISTING DENSITY 478 PEOPLE PER ACRE  
 PROPOSED DENSITY 694 PEOPLE PER ACRE





LOCATION OF FAHAD SQUARE IN KARACHI


APPENDIX 4.4.1



AREA AROUND FAHAD SQUARE



FAHAD SQUARE IN ITS IMMEDIATE CONTEXT



DRAWING TITLE: LOCATION PLAN / CONTEXT	CASE FAHAD SQUARE (FS), GULZAR-E-HIJRI	DATE: NOVEMBER, 2008	DRAWING NO.: FS - 01	ORIENTATION
		REVISED: JUNE, 2009		

1. CURRENT DEVELOPMENT

- 1. REDEVELOPABLE DENSITY 800 PER PERSON PER UNIT (1000 PER UNIT)
- 2. PLANNED DENSITY
- 2.1 COMMERCIAL UNITS ON GROUND FLOOR
- 2.2 RESIDENTIAL UNITS ON GROUND FLOOR
- 2.3 RESIDENTIAL UNITS ON FIRST FLOOR
- 2.4 PLUS ONE FLOOR 56 UNITS

TOTAL: 180 UNITS AT 6 persons per unit  
 872 persons per acre/1800 persons per hectare






3. FUTURE DENSITY

- ADDITIONS TO 74 UNITS AT 6 persons per unit
- 204 persons per acre/800 persons per hectare

4. TOTAL DENSITY

- 284 persons per acre
- 1200 persons per hectare

NOTE: All units have a plot area of 5600 sq yards

	RESIDENTIAL
	COMMERCIAL
	GREEN SPACES
	RESIDENTIAL EXTENSION ON GROUND FLOOR
	COMMERCIAL EXTENSION ON GROUND FLOOR

STATUS: CONCEPTUAL RE-MODELLING  
 DATE: OPTION 1


PROJECT: PWD-15


SCALE: MTS

DATE: JANUARY 2010

DESIGNED BY: SRS CONSULTANTS (P) LTD  
 PHASE APPROPRIATE

ORIENTATION





#### TABLE 10.10.1

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ. METERS)	PERCENTAGE OF TOTAL AREA
1	RESIDENTIAL	10,000	85.00%
2	GARDEN SPACES	1,700	15.00%
3	ROADS AND DRIVEWAYS	1,300	11.00%
4	UTILITIES	100	1.00%
5	LANDSCAPING	100	1.00%
6	OTHER	100	1.00%
TOTAL		11,800	100.00%

THESE FIGURES ARE APPROXIMATE AND SHOULD BE USED AS A GENERAL GUIDE ONLY. THE FINAL FIGURES WILL BE DETERMINED BY THE ARCHITECT AND ENGINEER.

RESIDENTIAL  
GARDEN SPACES



OPTION 1.2: CONCEPTUAL RE-MODELLING OPTION 2

SCHEME NO: PGC-11

SCALE: NTS

DATE: JANUARY 2013


LAND: 107-108 BUKHARA ROAD, DC-11, FAHAD APARTMENTS

ORIENTON





# APPENDIX 4.4.3



AREA OF APARTMENT: 735 SQ.FT



DRAWING TITLE: APARTMENT TYPICAL CASE STUDY 01

DRAWING NO: FS - 08a

SCALE: 1/8" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008


CASE: FAHAD SQUARE GULZAR-e-HIJRI



ORIENTATION

# APPENDIX 4.4.2

TOWARDS  
SUPER  
HIGHWAY



## SCHEDULE OF LEGENDS

- RESIDENTIAL
- COMMERCIAL  
CATERERS AND DECORATORS  
GARAGE  
GENERAL STORES  
PCO AND STATIONERS  
TAILORS  
BEAUTY PARLOUR  
ESTATE AGENTS  
ELECTRICIANS

70.6%

## AMENITIES

- RELIGIOUS
- OTHER PUBLIC FACILITY  
(IN THIS CASE UNION OFFICE)

0.0%

0.0%

## CIRCULATION

- PEDESTRIAN CIRCULATION
- VEHICULAR CIRCULATION

2.4%

27%

TOTAL NO OF RESIDENTIAL UNITS: 248 UNITS  
(GROUND PLUS 4)

NO OF COMMERCIAL UNITS ON GROUND FLOOR 56 UNITS

TOTAL NO OF UNITS :: 304 UNITS

EXISTING DENSITY 942 PEOPLE PER ACRE

DRAWING TITLE: LAND USE  
GROUND FLOOR EXISTING

DRAWING NO: FS - 03a

SCALE: 1" = 1'-0"

DATE: NOVEMBER, 2008  
Revised: JUNE, 2009

CASE: FAHAD SQUARE  
GULZAR-e-HIJRI



ORIENTATION















**Appendix – 4: Maps**


**4.1 KHUDA KI BASTI - III**

**4.1.1 Satellite Image**




# 4.1 KHUDA KI BASTI – III

## 4.1.2 Existing Landuse




#### 4.1 KHUDA KI BASTI – III

##### 4.1.3 Existing Housing Types



GROUND FLOOR



SECTION AA'



FIRST FLOOR



SECTION BB'

##### 4.1.4 Existing Housing Types



GROUND FLOOR



FIRST FLOOR



SECTION AA'



SECTION BB'



4.1 KHUDA KI BASTI - III

4.1.5 Conceptual Remodelling




## Appendix – 4: Maps

### 4.1 KHUDA KI BASTI – III

#### 4.1.6 Conceptual 3D-Modeling



#### 4.1.7 Conceptual 3D-Modeling





#### 4.1.8 Conceptual 3D-Modeling





## Appendix – 4: Maps

### 4.1 KHUDA KI BASTI – III

#### 4.1.9 Photographs (Credits: Fareena Chanda)
























## 4.2 NAWALANE


### 4.2.1 Satellite Image






## 4.2 NAWALANE

### 4.2.2 Existing Landuse



## 4.2 NAWALANE

### 4.2.3 Existing Housing Types



4.2 NAWALANE

4.2.4 Existing House Types



GROUND FLOOR



FIRST FLOOR



SECTION

4.2 NAWALANE

4.2.5 Conceptual Remodelling





## 4.2 NAWALANE

### 4.2.6 Conceptual 3D-Modeling



#### 4.2.7 Conceptual 3D-Modeling





## 4.2 NAWALANE

### 4.2.8 Photographs (Credits: Fareena Chanda)



















### 4.3 Paposh Nagar

#### 4.3.1 Satellite Image





### 4.3 Paposh Nagar


#### 4.3.2 Existing Landuse





### 4.3 Paposh Nagar

#### 4.3.3 Existing House Types



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



SECTION AA

SECTION BB



### 4.3 Paposh Nagar

#### 4.3.5 Conceptual 3D-Modeling





#### 4.3.6 Conceptual 3D-Modeling



### 4.3 Paposh Nagar

#### 4.3.7 Photographs (Credits: Fareena Chanda)





















#### 4.4 FAHAD SQUARE

##### 4.4.1 Satellite Image



## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.2 Existing Landuse




#### SCHEDULE OF LEGENDS

	RESIDENTIAL	
	COMMERCIAL CLUBS AND BLOWERS OFFICE GENERAL STORES FOOD STORES TANZIM MULTI-PURPOSE STREET ADMIN VILLAGE	12.0%
<b>AMENITIES</b>		
	RELIGIOUS	0.0%
	OTHER PUBLIC FACILITY (IN THIS CASE URBAN OFFICE)	0.0%
<b>CIRCULATION</b>		
	PEDESTRIAN CIRCULATION	2.4%
	VEHICULAR CIRCULATION	0%

#### 4.4 FAHAD SQUARE


##### 4.4.3 Existing House Type






#### 4.4 FAHAD SQUARE

##### 4.4.4 Existing House Types




## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.5 Conceptual Remodelling



#### 4.4 FAHAD SQUARE

##### 4.4.6 Conceptual Remodelling





#### 4.4.7 Conceptual 3D-Modeling



#### 4.4.8 Conceptual 3D-Modeling





## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.9 Photographs (Credits: Fareena Chanda)

















## Appendix -5: Proposed House Plans





SECTION A-A'



SECTION SHOWS STAGES OF CONSTRUCTION


HOUSE TYPE - 56.38 sq. yds  
(47.59 sqm)

POSSIBILITY ONE  
2 $\frac{1}{2}$  Units per plot


Pro-08 HOUSE TYPE PROPOSAL  
(OPTION - ONE)

DATE: JANUARY 2010

CLIENT: FAHAD SQUARE,  
KARACHI (Changed plot dimensions)



SECTION A-A'



SECTION SHOWS STAGES OF CONSTRUCTION

HOUSE TYPE - 36.75 sq. yds  
(30.72 sqm)

POSSIBILITY TWO  
2 $\frac{1}{2}$  Units per plot


Pro-09 HOUSE TYPE PROPOSAL  
(OPTION - TWO)

DATE: JANUARY 2010

CLIENT: FAHAD SQUARE,  
KARACHI (Changed plot dimensions)


## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.3 Existing House Type





#### 4.4.4 Existing House Types



## 4.4. FAHAD SQUARE

### 4.4.5 Conceptual Remodelling





EXHIBIT 06: PROPOSAL 1

- PERMISSIBLE DENSITY 650 PERSONS PER ACRE (900 PER HECTARE)
- PLANNED DENSITY
  - COMMERCIAL UNITS 42 ON-GROUND FLOOR
  - RESIDENTIAL UNITS 42 ON-GROUND FLOOR
  - RESIDENTIAL UNITS ON 7TH FLOOR PLUS ONE FLOOR 84 UNITS
- TOTAL 188 UNITS AT 6 persons per unit  
672 persons per acre/1680 persons per hectare
- FUTURE DENSITY
  - ADDITIONS TO 84 UNITS AT 4 persons per unit  
324 persons per acre/531 persons per hectare
- TOTAL DENSITY 896 persons per acre  
2240 persons per hectare

NOTE: All units have a grid point of 66.66 sq yards

- RESIDENTIAL
- COMMERCIAL
- GREEN SPACES
- RESIDENTIAL EXTENSION ON GROUND FLOOR
- COMMERCIAL EXTENSION ON GROUND FLOOR

### 4.4.6 Conceptual Remodelling





EXHIBIT 06: PROPOSAL 2

AREA	NO. OF BUILT UP AREAS FROM ABOVE PROPOSED APARTMENTS	EXISTING CAPACITIES FROM EXISTING APARTMENTS	DEVELOPER'S PLAN FOR NEW BUILDS
AREA 1 (Left)	1,300,000	1,300,000	1,300,000
AREA 2 (Center)	1,300,000	1,300,000	1,300,000
AREA 3 (Right)	1,300,000	1,300,000	1,300,000
TOTAL	3,900,000	3,900,000	3,900,000

\* Based on the existing capacity  
 \*\* Depends on the availability of neighborhood facilities  
 Intensity may vary from 75% or less to 100% or more

- RESIDENTIAL
- GREEN SPACES



## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.7 Conceptual 3D-Modeling




### 4.4.8 Conceptual 3D-Modeling






4.4 FAHAD SQUARE

4.4.1 Satellite Image



### 4.4 FAHAD SQUARE


#### 4.4.2 Existing Layout Plan



SCHEDULE OF LEGENDS		
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	RESIDENTIAL	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>	COMMERCIAL CATERERS AND DECORATORS GARAGE GENERAL STORES PCO AND STATIONERS TAILORS BEAUTY PARLOUR ESTATE AGENTS ELECTRICIANS	70.6%
<b>AMENITIES</b>		
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:magenta;"></span>	RELIGIOUS	0.0%
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green;"></span>	OTHER PUBLIC FACILITY (IN THIS CASE UNION OFFICE)	0.0%
<b>CIRCULATION</b>		
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:1px solid black;"></span>	PEDESTRIAN CIRCULATION	2.4%
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:grey;"></span>	VEHICULAR CIRCULATION	27%

4.4 FAHAD SQUARE


4.4.3 Plan of Apartment





## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.4 Proposal – 1




## 4.4 FAHAD SQUARE

### 4.4.5 Proposal – 2:



#### 4.4.6 Conceptual 3D-Modeling of Proposal - 2



#### 4.4.7 Conceptual 3D-Modeling of Proposal - 2





## Interviews for Khuda-Ki-Basti (KKB) Study

انٹرویو ائے : اکی بستی اسٹڈی

Questionnaire: 100 Interviews

سوالنامہ ۱۰۰ انٹرویوز

### 1. Family Information (خاندان کی معلومات)

#### 1.1 Name of respondent

جواب دہ کا نام

#### 1.2 Gender of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی جنس (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.2.1 Male

مرد

1.2.2 Female

عورت

#### 1.3 Age of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی عمر (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.3.1 B/w 20 and 29

۲۰ سے ۲۹ کے درمیان

1.3.2 B/w 30 and 39

۳۰ سے ۳۹ کے درمیان

1.3.3 B/w 40 and 49

۴۰ سے ۴۹ کے درمیان

1.3.4 B/w 50 and 59

۵۰ سے ۵۹ کے درمیان

1.3.5 60 and above

۶۰ سے اوپر

#### 1.4 Plot/Street No. (Pls put exact address)

پلاٹ نمبر / گلی نمبر (صحیح پتہ درج کیجئے)

1.5 Living since when (Pls mention specific year)

مدت رہائش (متعلقہ سال درج کیجئے)

1.6 Number of family members living in your house (Pls put the numbers)

خانہ ان کے افراد کی تعداد (نمبر درج کیجئے)

1.6.1 Husband / wife

خاتہ / بیوی

1.6.2 Children number / of ages

بچوں کی تعداد و عمر

1.6.3 Grand children number with ages

پوتے، پوتی، نواسا، نواسی بمطابق عمر

1.6.4 Others

دیگر افراد

1.6.5 Number of children going to school

اسکول جانے والے بچوں کی تعداد

1.6.6 Working members

سر روزگار افراد کی تعداد

1.6.6.1 Total

کل

1.6.6.2 Women

خواتین

1.6.6.3 What work do they do

روزگار کی نوعیت

1.6.6.3.1 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.2 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.3 \_\_\_\_\_

1.6.7 Where do they work?

جائے روزگار

1.6.7.1 \_\_\_\_\_

1.6.7.2 \_\_\_\_\_

1.6.7.3 \_\_\_\_\_

1.7 Total income (pls tick the appropriate bracket)

کل آمدنی (صحیح جواب پیکان لگائیے)

1.7.1 B/w 2000 and 4999

۲۰۰۰ سے ۴۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.2 B/w 5000 and 7999

۵۰۰۰ سے ۷۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.3 B/w 8000 and 10999

۸۰۰۰ سے ۱۰۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.4 Above 11,000

۱۱۰۰۰ روپے سے زائد

1.8 Income spent on the following (pls specify the exact amount)

درج ذیل کی مد میں اخراجات

1.8.1 Food \_\_\_\_\_

(کھانے پی پے)

1.8.2 Sewerage \_\_\_\_\_

(نکاسی آب)

1.8.3 Recreation \_\_\_\_\_

سیر و تفریح

1.8.4 Transport \_\_\_\_\_

آمدورفت

1.8.4.1 Is Public Transport easily accessible in the  
day time?

کیا دن کے اوقات میں ذرائع آمدورفت کا حصول آسان ہے

1.8.4.1.1 Yes

ہاں

1.8.4.1.2 No

نہیں

1.8.4.2 Is Public Transport easily accessible in the night time?

کیا رات کے اوقات میں ذرائع آمدورفت کا حصول آسان ہے



1.8.4.2.1 Yes   
ہاں

1.8.4.2.2 No   
نہیں

1.8.4.3 Average time spent during travelling for work or others  
کا\*د V مقاصد کے لیے سفر کے لیے اوسط وقت

---

1.8.5 Solid Waste Management \_\_\_\_\_  
کوڑا کر ۛ اٹھانے کے لیے

1.8.6 Maintenance of house \_\_\_\_\_  
گھر کی رکھ دیکھ کے لیے

1.8.7 Water \_\_\_\_\_  
پنی\*

1.8.8 Health \_\_\_\_\_  
صحت

1.8.9 Electricity \_\_\_\_\_  
بجلی

1.8.10 Education \_\_\_\_\_  
تعلیم

1.8.11 Others \_\_\_\_\_  
د

1.9 Previous residence  
سابقہ رہائش

1.9.1 Location  
پتہ/مقام

1.9.2 Owned  
ذاتی

1.9.3 Rented  
کرایہ دار

1.9.4 Other (Pls specify)  
د (وضا # کیجئے)

1.9 Advantages of the previous location (In order of priority)  
سابقہ رہائش کے فوائد (جیجیات کی تالیہ دپ)

1.9.1 \_\_\_\_\_

1.9.2 \_\_\_\_\_

1.9.3 \_\_\_\_\_

1.10 Disadvantages of the previous location (In order of the priority of the most disadvantageous)

سابقہ رہائش کے نقصانات

1.10.1 \_\_\_\_\_

1.10.2 \_\_\_\_\_

1.10.3 \_\_\_\_\_

## 2 Preferences (ترجیحات)

2.1 If you had a choice what would you chose (Pls tick appropriate)

اگر آپ کو انتخاب کڑا ہو تو آپ مندرجہ ذیل سے کیا منتخب کریں گے

2.1.1 80 square yards in Khuda Ki Basti for Rs-----

: اکی ہستی میں ۸۰ کا پلاٹ..... روپے میں

2.1.1.1 Monthly instalment -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.2 60 square yards in Khuda ki Basti for Rs-----

: اکی ہستی میں ۶۰ کا پلاٹ..... روپے میں

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.3 48 square yards in Khuda ki Basti for Rs-----

: اکی ہستی میں ۶۰ کا پلاٹ..... روپے میں

2.1.3.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.4 48 square yards near the city for Rs-----

شہر کے نزدیک - ۴۸ کا گھر..... روپے میں

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.5 2 room flat in 5th floor building at Karimabat at Rs.-----

کریم آباد میں \* چھوٹی منزلہ دو کمروں کا فلیٹ..... روپے میں

2.1.5.1 Monthly instalment Rs -----

.....روپے ماہانہ اقساطی

2.2 Give two reasons for your choice (In order of priority)

اپنے انتخاب کی وجوہات بیان کیجئے (ترجیحات کی بنا پر)

2.2.1 \_\_\_\_\_

2.2.2 \_\_\_\_\_

3 Views about the Area and Houses علاقے اور گھر کے بارے میں آپ کے خیالات

3.1 Nature of ownership of the house: (Pls tick appropriate)

مکان کی ملکیت کی نوعیت بیان کریں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

3.1.1 Owned   
ذاتی ملکیت

3.1.2 Tenant   
کرایہ دار

3.1.3 Other (Pls specify)   
دیگر (بیان کریں)

3.2 What is the total number of rooms (living and bedrooms) in the house?

مکان میں کل کمروں کی تعداد (لوہے اور بیڈروم)

3.3 Total area (in sq yards) \_\_\_\_\_  
کل رقبہ (نی مربع /<sup>2</sup>)

3.4 No. of families \_\_\_\_\_  
خانوں کی تعداد

3.5 Does this house provide you any additional income?

کیا اس مکان کے ذریعے آپ کی اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے

3.5.1 Yes   
ہاں

3.5.2 No   
نہیں

3.5.3 If yes, type of Income



آ ہاں تو آمدنی کی قسم

3.5.3.1 Rented a portion:

مکان کا ایہ حصہ کرایہ پر ہے

3.5.3.2 It has a shop:

مکان میں قائم کردہ دکان

3.5.3.3 Other

د

3.6 Front or nearby space of house is used for

مکان کا اگلا حصہ یا اطراف کی جگہ ذیل کے لیے استعمال ہوتی ہے

3.6.1 Vending

دکان داری کے لیے

3.6.2 Animals/Cattle

مال مویشی

3.6.3 Cloth Washing

کپڑوں کی دھلائی کے لیے

3.6.4 Storage purpose

ذخیرہ کرنے کے لیے

3.6.5. Other

د

3.7 Do you think that the environment and the houses are conducive to: (Pls

tick the appropriate)

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مگت مند رج ذیل کے حساب سے منا ہیں (صحیح جواب پر ن لگائیے)

3.7.1 Healthy living

صحت مند زندگی

3.7.2 Social relations

سماجی تعلقات

3.7.3 Raising children

بچوں کی پرورش

3.8 Average amount spent on maintaining a house, in a year

مکان کی مرمت پر سالانہ خرچ ہونے والی رقم کا اوسط بتا

3.9 From where you get the money for maintenance?

مرمت کے لیے آپ رقم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟

3.9.1 Personal saving

ذاتی بچت کے ذریعے

3.9.2 Selling of assets

بیچ کر

3.9.3 Credit informal

غیر رسمی قرضے کے ذریعے

3.9.4 Credit formal

رسمی قرضے کے ذریعے

3.9.5 Credit thalla as material

تھلے والے سے مال بطور قرضہ

3.10 Do you have plans for further construction.

کیا آپ کامزید تعمیرات کا منصوبہ ہے

3.10.1 Yes

ہاں

3.10.2 No

نہیں

3.11 Do you require space to do economic activity in the house? (Pls tick

appropriate)

کیا آپ گھر کو معاشی سرآمی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

3.11.1 Yes

ہاں

3.11.2 No

نہیں

3.11.3 If yes, (pls mention the type of activity/activitie)

اے ہاں (سرآمی اسرار میوں کی اقسام بیان کریں)

3.11.3.1 \_\_\_\_\_

3.11.3.2 \_\_\_\_\_

3.11.3.3 \_\_\_\_\_

3.12 Do you do any economic activity in the house? (Pls tick appropriate)

کیا آپ گھر کو معاشی سرآمدی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

3.12.1 Yes

ہاں

3.12.2 No

نہیں

3.12.3 If Yes, (Pls mention the type of activity/activities, even if more than one)

اے ہاں، تو سرآمدی میں کی نوعیت بیان کریں؟ (وضاحت # کریں)

3.12.3.1 \_\_\_\_\_

3.12.3.2 \_\_\_\_\_

3.12.3.3 \_\_\_\_\_

3.13 What is right about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آ. ڈی میں کیا اچھائیاں ہیں؟ (تہجیات کے حساب سے)

3.13.1 \_\_\_\_\_

3.13.2 \_\_\_\_\_

3.13.3 \_\_\_\_\_

3.14 What is wrong about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آ. ڈی میں کیلہ. انیاں ہیں؟ (تہجیات کے حساب سے)

3.14.1 \_\_\_\_\_

3.14.2 \_\_\_\_\_



#### 4. Use of Public Space and Communal Facilities

عوامی جگہوں / کمیو، سہولیات کا استعمال

4.1 Do you or your family use the large family spaces in the Settlement? (Pls

tick appropriate)

کیا آپ یا آپ کا خاندان ان بڑی میں موجود کھلی جگہیں استعمال کرتے ہیں؟

4.1.1 Yes

ہاں

4.1.2 No

نہیں

4.2 Do you use the smaller open spaces?

کیا آپ چھوٹی کھلی جگہیں استعمال کرتے ہیں؟

4.2.1 Yes

ہاں

4.2.2 No

نہیں

4.3 If the cost of your plot could be reduced would you be happy without these spaces?

اگر آپ کے مکان کی گنجائش بڑھا کر کھلی جگہیں ختم کر دی جا سکتی ہیں تو آپ خوش رہیں گے؟

4.3.1 Yes

ہاں

4.3.2 No

نہیں

4.4 Where do the children play? (Pls tick appropriate)

بچے کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

4.4.1 Park/play grounds

\* پارک / کھیلنے کا میدان

4.4.2 Streets

گلیاں

4.4.3 Any other area Pls specify)

دوسرا (وضاحت کریں)

4.4.4 Don't play  
وہ نہیں کھیلتے



4.5 Do you do shopping away from the shops in the street?  
کیا آپ محلے کی دکانوں کے علاوہ بھی کہیں اور سے خریداری کرتے ہیں

4.5.1 Yes

ہاں

4.5.2 No

نہیں

4.5.3 If yes,  
اے ہاں

4.5.3.1 Where do you go? \_\_\_\_\_  
آپ کہاں جاتے ہیں

4.5.3.2 For what you go? \_\_\_\_\_  
آپ کیا خریدنے جاتے ہیں

4.6 Do you go out of the settlement for recreation?  
کیا آپ تفریح کے لیے آدی سے باہر جاتے ہیں

4.6.1 Yes

ہاں



4.6.2 No

نہیں



4.6.3 If yes,  
اے ہاں

4.6.3.1 Where do you go? \_\_\_\_\_  
آپ کہاں جاتے ہیں

4.6.3.2 How often do you go? \_\_\_\_\_  
آپ کتنے بار جاتے ہیں

4.6.3.3 Do you go as a family? \_\_\_\_\_  
آپ خاندان کے ہمراہ جاتے ہیں

4.6.3.4 How much do you spend on one visit(Rs)? \_\_\_\_\_  
ای۔\*۔ رجانے پر آپ کے کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں

## 5 Use of Community Centre کمیو، سینٹر کا استعمال

5.1 Is there a community centre / space in the settlement?

کیا آڈی میں کوئی کمیو، سینٹر موجود ہے

5.1.1 Yes

ہاں

5.1.2 No

نہیں

5.2 Have you ever been to the community centre? (Pls tick appropriate)

5.2.1 Yes

ہاں

5.2.2 No

نہیں

5.2.3 If yes,

اے ہاں

5.2.3.1 How many times?

کتنی مرتبہ

\_\_\_\_\_

5.2.3.2 What for?

کس لیے

\_\_\_\_\_

5.3 Do women go to the community centre/space?

کیا خواتین بھی یہاں جمع ہوتی ہیں

5.3.1 Yes

ہاں

5.3.2 No

نہیں

5.3.3 If No, why not?

اے نہیں تو کیوں نہیں

5.3.3.1

\_\_\_\_\_

5.3.3.2

\_\_\_\_\_



5.3.3.3. \_\_\_\_\_

5.4 What is the community centre / space used for? (Pls ask community centre staff)

کیو، سینٹر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے

5.4.1 \_\_\_\_\_

5.4.2 \_\_\_\_\_

5.5 How often? (Pls indicate number)

کتنی مرتبہ (نمبر بتائیے)

5.6 What do you use the street for? (Pls tick the appropriate)

آپ گلیوں کا استعمال ذیل میں درج کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں

5.6.1 Economic activities

معاشی سرآمیوں کے لیے

5.6.2 Recreation, play activities

سیر و تفریح / کھیل کود کے لیے

5.6.3 Socialising

میل 5پ کے لیے

5.6.4 Sitting

بیٹھنے کے لیے

5.7 What is the nature, extent, meaning of a community in your opinion?

آپ کے خیال میں کمیونٹی کی نوعیت و مفہوم کیا ہے؟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6. Social Assets سماجی اثاثے

6.1 How long have you been living in this settlement? (No. of years)

آپ اس آبادی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ (کتنے سال سے)

6.2 Did you build relationships with others over the years.

کیا رہا > مدت کے دوران آپ کے دوسروں سے تعلقات استوار ہوئے ہیں

6.2.1 Yes

ہاں

6.2.2 No

نہیں

6.3 If yes, are these relationships useful for any of the following?

کیا یہ تعلقات مندرجہ ذیل کے حساب سے مفید ہند ہیں

Type قسم	Yes ہاں	No نہیں
Getting a job نوکری حاصل کرنے کے لیے		
Admission of children to school اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے		
Relations / problems with police پولیس سے معاشرت طے کرنے میں		
Conflict resolution جھگڑوں کے حل کے لیے		
Others دی		

6.4 Do open Commercial Spaces helps in building relationships with the following?

Type قسم	Yes ہاں	No نہیں
Area Councilor محلے کی کونسلر		
UC Nazim یوسی. نظم		

Town Nazim *ٲون، ظم		
Politician سيا *دان		
Resource persons *، ٲ افراد		

6.5 Are your relatives also residing in the same / nearby area?

كيا آپ كے رشتہ دار كجی اسی علاقے ميں رستے هيں

6.5.1 Yes

هاں

6.5.2 No

نهيں

6.6 Is it important to have relatives in the area?

كيا رشتہ داروں كا علاقہ ميں رهنا اہم ہے

6.6.1 Yes

هاں

6.6.2 No

نهيں

Form filled by:

1.

Date:



## Interviews for Khuda-Ki-Basti (KKB) Study

انٹرویو ائے : اکی لستی اسٹڈی

### 7. Interview of School Principals / Teachers (2 Primary, 2 Secondary)

7.1 Is this plot space enough?

کیا یہ پلاٹ کافی ہوتی ہے

7.1.1 Yes

ہاں

7.1.2 No

نہیں

7.1.3 If No, why?

اے نہیں تو کیوں نہیں

7.1.3.1 \_\_\_\_\_

7.2.3.2 \_\_\_\_\_

7.2 Do you use the small open spaces near the school

کیا آپ اسکول کے قریب واقع کھلی جگہوں (چھوٹی) کو استعمال کرتے ہیں

7.2.1 Yes

ہاں

7.2.2 No

نہیں

7.2.3 If yes why?

اے ہاں تو کیوں

7.2.3.1 \_\_\_\_\_

7.2.3.2 \_\_\_\_\_

7.2.4. If No, why not?

اے نہیں تو کیوں نہیں

7.2.4.1 \_\_\_\_\_

7.2.3.2 \_\_\_\_\_

7.3 Do you use the big open spaces near the school?

کیا آپ اسکول کے قریب بڑی کھلی جگہوں (پارک) کو استعمال کرتے ہیں

7.3.1 Yes

ہاں

7.3.2 No

نہیں

7.4 Where do the children usually play?

بچے عام طور پر کہاں کھیلتے ہیں

7.4.1 In the class rooms

کلاس روم میں

7.4.2 In the streets

گلیوں میں

7.4.3 In the nearest open space

سب سے قریب کی کھلی جگہوں میں

7.5 Does the school play any role in community development?

کیا سماجی ترقی میں اسکول کا کوئی کردار ہے

7.5.1 Yes

ہاں

7.5.2 No

نہیں

7.5.3 If Yes, what role? \_\_\_\_\_

اے ہاں تو کیا کردار ہے

7.5.4 If not, why not? \_\_\_\_\_

اے نہیں تو کیوں نہیں

7.6 As a teacher what is your opinion about the settlement (In order of priority)?

بحیثیت استاد اس آ. دی کے رے میں آپ کی کیا رائے ہے (تہجیات کے حساب سے)

7.6.1 \_\_\_\_\_

7.6.2 \_\_\_\_\_

7.6.3 \_\_\_\_\_

7.7 What is wrong about the settlement (In order of priority)?

اس آ. دی میں کیلہ اییاں ہیں (تہجیات کی تیا دیو)

7.7.1 \_\_\_\_\_

7.7.2 \_\_\_\_\_

7.7.3 \_\_\_\_\_

7.8 Do you think that the environment and the houses are conducive to

Healthy living

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مکانات صحت مند زندگی کے لیے مینا ہے

7.8.1 Yes

ہاں

7.8.2 No

نہیں



7.9 Do you think that the environment and the houses are conducive to maintain social relationships?

آپ کے خیال میں یہاں کے ماحول سماجی تعلقات پر مبنی قرار کے لیے سازگار ہیں

7.9.1 Yes

ہاں

7.9.2 No

نہیں

7.10 What is a safe /preferred walking distance to school? (Pls state in km)

آپ کے خیال میں اسکول کتنی دوری پر واقع ہونا چاہیے

7.11 Are there any impacts on education living away from school?

کیا اسکول سے دور سکونہ تعلیم پر اثر از ہوتی ہے

7.11.1 Yes

ہاں

7.11.2 No

نہیں

End

ختم شد

Form Filled By:

1. \_\_\_\_\_

## Interviews for Nawalane Study

انٹرویو ائے نوالین اسٹڈی

Questionnaire: 75 Interviews

سوالنامہ ۷۵ انٹرویوز

### 1. Family Information (خاندان کی معلومات)

#### 1.1 Name of respondent

جواب دہ کا نام

#### 1.2 Gender of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی جنس (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.2.1 Male

مرد

1.2.2 Female

عورت

#### 1.3 Age of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی عمر (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.3.1 B/w 20 and 29

۲۰ سے ۲۹ کے درمیان

1.3.2 B/w 30 and 39

۳۰ سے ۳۹ کے درمیان

1.3.3 B/w 40 and 49

۴۰ سے ۴۹ کے درمیان

1.3.4 B/w 50 and 59

۵۰ سے ۵۹ کے درمیان

1.3.5 60 and above

۶۰ سے اوپر

1.4 Plot/Street No. (Pls put exact address)

پلاٹ نمبر / گلی نمبر (صحیح پتہ درج کیجئے)

1.5 Living since when (Pls mention specific year)

مدت رہائش (متعلقہ سال درج کیجئے)

1.6 Number of family members living in your house (Pls put the numbers)

خانہ ان کے افراد کی تعداد (نمبر درج کیجئے)

1.6.1 Husband / wife

خانہ / بیوی

1.6.2 Children number / of ages

بچوں کی تعداد و عمر

1.6.3 Grand children number with ages

چچا، پوتی / نواسا / نواسی بمطابق عمر

1.6.4 Others

دیگر افراد

1.6.5 Number of children going to school

اسکول جانے والے بچوں کی تعداد

1.6.6 Working members

سر روزگار افراد کی تعداد

1.6.6.1 Total

کل

1.6.6.2 Women

خواتین

1.6.6.3 What work do they do

روزگار کی نوعیت

1.6.6.3.1 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.2 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.3 \_\_\_\_\_



1.6.7 Where do they work?

جائے روزگار

1.6.7.1 \_\_\_\_\_

1.6.7.2 \_\_\_\_\_

1.6.7.3 \_\_\_\_\_

1.7 Total income (pls tick the appropriate bracket)

کل آمدنی (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

1.7.1 B/w 2000 and 4999

۲۰۰۰ سے ۴۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.2 B/w 5000 and 7999

۵۰۰۰ سے ۷۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.3 B/w 8000 and 10999

۸۰۰۰ سے ۱۰۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.4 Above 11,000

۱۱۰۰۰ روپے سے زائد

1.8 Income spent on transport (pls tick the appropriate bracket)

اجاات. ائے آمدورفت

1.8.1 B/w 1000 and 1999

۱۰۰۰ سے ۱۹۹۹ روپے کے درمیان

1.8.2 B/w 2000 and 2999

۲۰۰۰ سے ۲۹۹۹ کے درمیان

1.8.3 B/w 3000 and 4999

۳۰۰۰ سے ۴۹۹۹ کے درمیان

1.8.4 Above 5,000

۵۰۰۰ روپے سے زائد

1.9 Previous residence

گذشتہ رہائش

1.9.1 Location

پتہ/مقام

1.9.2 Owned

ذاتی

1.9.3 Rented

کرایہ دار

1.9.4 Other (Pls specify)

دوسرا (وضاحت کیجئے)

1.9 Advantages at the current location (In order of priority)

رہائش کے فوائد (ترتیباً جہات کی بنا پر)

1.9.1 \_\_\_\_\_

1.9.2 \_\_\_\_\_

1.9.3 \_\_\_\_\_

1.10 Disadvantages, current location (In order of the priority of the most disadvantageous)

نقصات

1.10.1 \_\_\_\_\_

1.10.2 \_\_\_\_\_

1.10.3 \_\_\_\_\_

## 2 Preferences (ترتیباً جہات)

2.1 If you had a choice what would you chose (Pls tick appropriate)

اگر آپ کو انتخاب کڑا ہو تو آپ مندرجہ ذیل سے کیا منتخب کریں گے

2.1.1 80 square yards in Khuda Ki Basti for Rs-----

: اکیس ہستی میں ۸۰ کا پلاٹ ..... روپے میں

2.1.1.1 Monthly instalment -----

..... روپے ماہانہ اقساط پر

2.1.2 48 square yards in Baldia for Rs-----

بلدیہ میں ۴۸ کا پلاٹ ..... روپے میں

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساط پر

2.1.3 2 room flat in New Karachi at Rs-----

نئی کراچی میں ۲ کمروں کا فلیٹ..... روپے میں

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.4 A 120 square yards plot in Ittehad Town

اتحادی ٹاؤن میں ۱۲۰/۰ کا پلاٹ ..... روپے میں

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.5 Katchi Abadi on Hub River Road

#۶ ی سے متصل روڈ واقع کچی آبادی

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساطی

2.1.6 Your current house in Nawalane

نوالین میں آپ کا موجودہ گھر

2.1.7 A redesigned house in Nawalane

نوالین میں نئے سرے سے تعمیر شدہ مکان

2.2 Give two reasons for your choice (In order of priority)

اپنے انتخاب کی ۲ وجوہات بیان کیجئے (ترتیب کی بنیاد پر)

2.2.1 \_\_\_\_\_

2.2.2 \_\_\_\_\_

**3 Views about the Area and Houses** علاقے اور گھر کے بارے میں آپ کے خیالات

3.1 Why would you choose to continue to live in this area and house

آپ اس گھر اور علاقے میں رہنے کا انتخاب کیوں کریں گے

3.1.1 It is near to your place of work

کیا یہ آپ کے کام کرنے کی جگہ سے قریب ہے؟

3.1.2 Your relatives/clan live in this area

آپ کے رشتہ دار/قبیلہ اس علاقے میں رہتے ہیں

3.1.3 The amenities in the area are good

بہتر شہری سہولیات میسر ہیں

3.1.4 You have an association with the ancestral home

آپ کی اپنے گھر سے وابستگی پائی جاتی ہے



### 3.2 What is right about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آ. ڈی میں کیا اچھائیاں ہیں (تہجیات کے حساب سے)

3.2.1 \_\_\_\_\_

3.2.2 \_\_\_\_\_

3.2.3 \_\_\_\_\_

### 3.3 What is wrong about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آ. ڈی میں کیا ایاں ہیں (تہجیات کے حساب سے)

3.3.1 \_\_\_\_\_

3.3.2 \_\_\_\_\_

3.3.3 \_\_\_\_\_

### 3.4 Do you think that the environment and the houses are conducive to: (Pls

tick the appropriate)

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مکانات مندرجہ ذیل کے حساب سے منا . ہیں (صحیح جواب پر K ن لگائیے)

3.4.1 Healthy living

صحت مند زندگی

3.4.2 Social relations

سماجی تعلقات

3.4.3 Raising children

بچوں کی پرورش

### 3.5 Is your house well-ventilated?

کیا آپ کا گھر منا . مطور ہو ادارہ ہے

3.5.1 Are the kitchen and the washroom(s) well ventilated?

کیا آپ کا . ورچی خانہ اور غسل خانہ منا . مطور ہو ادارہ ہے

3.5.2 Are the living and bedrooms of the house airy and

comfortable for living?

کیا لو . روم اور بیڈ روم ہو ادارہ آرام دہ ہیں؟

3.5.3 Is the house:

کیا آپ کا گھر

3.5.3.1 Hot in the summers

موسم آماں ٲا جاآا هآ

3.5.3.2 Cool in the summers

موسم آماں سرد هؤا هآ

3.5.3.3 Warm in winters

موسم سرما میں آماں رهاا هآ

3.5.3.4 Cold in winters

موسم سرما میں آماں آماں رهاا هآ

3.6 How many of these rooms have:

آپ كآ مكاں میں كآا ايسآ كمرآ میں جن میں

3.6.1 Windows that open to the outside?

كآ كیاں آا جاآا كآا هآ

3.6.2 No windows at all?

كآ كیاں موجود نہیں هآ

3.6.3 Have windows that open very close to the neighbouring house?

كآ كیاں موجود هآں وه ٲوسى كآ مكاں كآ قراآا كآا هآ

3.7 Are you able to see into your neighbour's house or living spaces?

كیا آآ ٲوسى كآ مكاں اور رهاا آا كآوں كآ آساى كآا هآ

3.7.1 Yes

هاں

3.7.2 No

نہیں

3.7.3 Does this affect yours or your neighbours' privacy

كیا اس سآ آآ كآ اور آآ كآ ٲوسى كآ آا كآا كآا هآ

3.7.3.1 Yes

هاں

3.7.3.2 No

نہیں

3.7.3.3 If so, how?

آا هاں آا آا كآا

3.7.3.4 And, how do you cope with it? (Pls explain)

آپ اس مسئلے سے کس طرح بچتے ہیں (وضا # کریں)

3.8 Do you require space to do economic activity in your house? (Pls tick appropriate)

کیا آپ کو اپنے گھر میں معاشی سرآمی کے لیے جگہ درکار ہے؟

3.8.1 Yes

ہاں

3.8.2 No

نہیں

3.8.3 If Yes, what sort of activity/activities? (Pls explain)

اے ہاں، تو سرآمی میں کی نوعیت بیان کریں؟ (وضا # کریں)

3.8.3.1 \_\_\_\_\_

3.8.3.2 \_\_\_\_\_

3.8.3.3 \_\_\_\_\_

3.9 Do you do any economic activity in the house? (Pls tick appropriate)

کیا آپ گھر کو معاشی سرآمی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

3.9.1 Yes

ہاں

3.9.2 No

نہیں

3.9.3 If yes, (pls mention the type of activity/activities)

اے ہاں (سرآمی میں کی اقسام بیان کریں)

3.9.3.1 \_\_\_\_\_

3.9.3.2 \_\_\_\_\_

3.9.3.3 \_\_\_\_\_

3.10 Nature of ownership of the house: (Pls tick appropriate)

مکان کی ملکیت کی نوعیت بیان کریں (صحیح جواب پر # لگائیے)

3.10.1 Owned   
ذاتی ملکیت

3.10.2 Tenant   
کرایہ دار

3.10.3 Other (Pls specify)   
دی (بیان کریں)

3.11 What is the total number of rooms (living and bedrooms) in the house?

مکان میں کل کمروں کی تعداد (لوہ اور بیڈروم)

3.12 Total area (in sq yards) \_\_\_\_\_  
کل رقبہ (فی مربع فٹ)

3.13 No. of families \_\_\_\_\_  
خانوں کی تعداد

3.14 Roof construction (Pls tick appropriate)

چھت کی ساخت # کی نوعیت

3.14.1 RCC   
آر سی سی (پکی چھت)

3.14.2 Tiles   
ٹائلز\*

3.14.3 G.I   
جی آئی (دھات)

3.14.4 Asbestos \_\_\_\_\_   
اسبستوس



3.15 Does this house provide you any additional income?

کیا اس مکان کے ذریعے آپ کی اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے

3.15.1 Yes

ہاں

3.15.2 No

نہیں

3.15.3 If yes, type of Income

اے ہاں تو آمدنی کی قسم

3.15.3.1 Rented a portion:

کان کا ایہ حصہ کرایہ پر ہے

3.15.3.2 It has a shop:

مکان میں قائم کردہ دکان

3.15.3.3 Other

د

3.16 Front or nearby space of house is used for

مکان کا اگلا حصہ\* اطراف کی جگہ ذیل کے لیے استعمال ہوتی ہے

3.16.1 Vending

دکان داری کے لیے

3.16.2 Animals/Cattle

مال مویشی

3.16.3 Cloth Washing

کپڑوں کی دھلائی کے لیے

3.16.4 Storage purpose

ذخیرہ کرنے کے لیے

3.16.5. Other

د

3.17 Average amount spent on maintaining a house, in a year

مکان کی مرمت پر سالانہ خرچ ہونے والی رقم کا اوسط بتانا

3.18 From where you get the money for maintenance?

مرمت کے لیے آپ رقم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟

3.18.1 Personal saving

ذاتی بچت کے ذریعے

3.18.2 Selling of assets   
فروشہ

3.18.3 Credit informal   
غیر رسمی قرضے کے ذریعے

3.18.4 Credit formal   
رسمی قرضے کے ذریعے

3.18.5 Credit thalla as material   
تھلے والے سے مال بطور قرضہ

3.19 Do you have plans for further construction.  
کیا آپ کا مزید تعمیرات کا منصوبہ ہے

3.19.1 Yes   
ہاں

3.19.2 No   
نہیں

#### 4. Use of Public Space and Communal Facilities

عوامی جگہوں / کمیونٹی سہولیات کا استعمال

4.1 Where do the younger (under 14) play (Pls tick appropriate)  
نوجوان (۱۴ سال سے کم عمر) کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

4.1.1 Park/play grounds   
پارک / کھیلنے کا میدان

4.1.2 Streets   
گلیاں

4.1.3 Any other area Pls specify)  
دوسرا (وضاحت کریں)

4.1.4 Don't play   
وہ نہیں کھیلتے

4.2 Where do the older boys play (Pls tick appropriate)  
بڑے لڑکے کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

4.2.1 Park/play grounds   
\*پارک / کھیلنے کا میدان

4.2.2 Streets   
گلیاں

4.2.3 Any other area Pls specify)  
دوسرا (وضاحت کریں)

4.2.4 Don't play   
وہ نہیں کھیلتے

4.3 Are there any problems for women and girls regarding games/recreation, meeting?

کیا لڑکیوں اور خواتین کو کھیل، تفریح یا 5 تا 5 تاؤں کے لیے مسائل درپیش ہیں؟

4.3.1 Yes   
ہاں

4.3.2 No   
نہیں

4.3.3 If yes, what are they? (In order of priority)  
اگر ہاں، تو مسائل بیان کریں (ترتیب کے حساب سے)

4.3.3.1 \_\_\_\_\_

4.3.3.2 \_\_\_\_\_

4.3.3.3 \_\_\_\_\_

4.4 How can they be solved? (In order of priority)  
ان مسائل کا حل کیا ہے (ترتیب کے حساب سے)

4.4.1 \_\_\_\_\_

4.4.2 \_\_\_\_\_

4.4.3 \_\_\_\_\_

4.5 Where do you do your household shopping ?

آپ گھر کی خریداری کہاں سے کرتے ہیں

4.5.1 \_\_\_\_\_

4.5.2 \_\_\_\_\_

4.5.3 \_\_\_\_\_

4.6 Do you go out of the settlement for recreation?

کیا آپ آکر درہ علاقے سے ہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں

4.6.1 Yes

ہاں

4.6.2 No

نہیں

4.6.3 If yes

اے ہاں تو

4.6.3.1 Where do you go?

کس مقام پر؟

4.6.3.2 How often do you go?

کتنی بار جاتے ہیں؟

4.6.3.3 Do you go as a family?

کیا آپ خاندان کے ہمراہ جاتے ہیں؟



#### 4.6.3.4 How much do you spend on one visit?

۱۔ \*۔ رجانے میں آپ کا کتنا چہرہ ہے؟

#### 4.7 Is there a marriage/shadi/community hall in the area?

کیا اس علاقے میں کوئی شادی ہال / کمیو، ہال واقع ہے؟

4.7.1 Yes

ہاں

4.7.2 No

نہیں

#### 4.8 How often do you go to the shadi/community hall?

آپ یہاں کتنی رجاتے ہیں؟

#### 4.9 Is the shadi / community hall used for any other purpose besides weddings?

کیا شادی ہال / کمیو، ہال کا استعمال شادی کی تقریبات کے علاوہ بھی ہوتا ہے

4.9.1 Yes

ہاں

4.9.2 No

نہیں

4.9.3 If yes what's that

اے ہاں تو کس لیے

4.9.3.1 \_\_\_\_\_

4.9.3.2 \_\_\_\_\_

4.9.3.3 \_\_\_\_\_

#### 4.10 Do you use the streets or other open spaces as gathering places of the community (or community center) in the Nawalane?

کیا نوالین میں آپ گلیوں اور کھلی جگہوں کو اجتماعی تقریبات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

4.10.1 Yes

ہاں

4.10. 2 No

نہیں

4.11 If yes do you use it (Pls tick appropriate)

اے ہاں تو کیا آپ ان کا استعمال کرتے ہیں؟ (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

4.11.1 How many times

کتنے بار

4.11.2 What for?

کس لیے

4.12 Do women gather at this place as well?

کیا خواتین بھی یہاں جمع ہوتی ہیں

4.12.1 Yes

ہاں

4.12.2 No

نہیں

4.12.3 If No, why not?

اے نہیں تو کیوں نہیں

4.12.3.1 \_\_\_\_\_

4.12.3.2 \_\_\_\_\_

4.12.3.3. \_\_\_\_\_

4.13 And do they need a separate community centre?

کیا خواتین کو اپنے لیے الگ سماجی مراکز کی ضرورت ہے؟

4.13.1 Yes

ہاں

4.13.2 No

نہیں

## 5. Social Assets (سماجی اثاثے)

5.1 How long have you been living in this settlement? (No. of years)

آپ اس آبادی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ (کتنے سال سے)

5.2 Relationships built with others over the years.

کیا رہا مدت کے دوران آپ کے دوسروں سے تعلقات استوار ہوئے ہیں

5.2.1 Yes

ہاں

5.2.2 No

نہیں

5.3 Are these relationships useful for any of the following?

کیا یہ تعلقات مندرجہ ذیل کے حساب سے مفید ہند ہیں

	Yes ہاں	No نہیں
Getting a job نوکری حاصل کرنے کے لیے		
Admission of children to school اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے		
Relations / problems with police پولیس سے معاہدے طے کرنے میں		
Conflict resolution جھگڑوں کے حل کے لیے		
Others د		

5.4 If yes, what is the role of CBOs? (Pls tick the appropriate)

آ ہاں تو سی بی او کا کیا کردار ہے (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

5.4.1 Assist in funerals

دفین کے سلسلے میں معاون

5.4.2 Provide decoration for marriages

شادی بیاہ کی تقریبات میں M و آرائش کی سہولیات فراہم کریں۔

5.4.3 Lobby for basic services

دی سہولیات کے لیے لابی کریں۔

5.4.4 Assist for admission in schools for children

اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے معاوضہ کریں۔

5.4.5 Help in bailouts with police

پولیس سے ضمانت حاصل کرنے میں مدد کریں۔

5.4.6 Conflict resolutions

جھگڑوں کے حل کے لیے

5.4.7 Others \_\_\_\_\_

د

5.5 Do you get monthly or daily household goods on loan from shopkeeper?

کیا آپ دکان دار سے ماہانہ یا روزانہ کی چیزیں اپنا اشیاء ادھار پر لیتے ہیں

5.5.1 Yes

ہاں

5.5.2 No

نہیں

5.6 Do you have a saving committee / group saving?

کیا آپ کے علاقے میں بچت کمیٹی یا اجتماعی بچت کا طریقہ کار موجود ہے

5.6.1 Yes

ہاں

5.6.2 No

نہیں

6. What is the role of NGO's in your area? (Pls tick the appropriate)

آپ کے ادارے میں غیر سرکاری تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

6.1 Govt. substitute

سرکاری اداروں کا متبادل

6.2 Govt. support

حکومتی اداروں کی حمایت کریں۔



6.3 Individual capacity

اددی کام

7 Being an old area of the city, Lyari is important to you?

شہر کا ایہ قدیم علاقہ ہونے کے لیے کیا لیا ری آپ کے لیے اہم ہے

7.1 Yes

ہاں

7.2 No

نہیں

7.3 If yes what is the importance (in order of priority)

اے ہاں تو اہمیت کی وجہ بیان کریں (ترتیب کے حساب سے)

7.3.1 \_\_\_\_\_

7.3.2 \_\_\_\_\_

7.3.3. \_\_\_\_\_

8 Immediate further developments are required in which of the following sectors (Pls tick one of top most priority)

مندرجہ ذیل میں سے کن شعبوں فوری ترقی کی ضرورت ہے

8.1 Education

تعلیم

8.2 Health

صحت

8.3 Roads

سڑکیں

8.4 Water & sanitation

صاف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کی نکاسی

8.5 Solid waste disposal

کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا

## 8.6 Other (Pls specify)

د (وضا # کریں)

8.6.1 \_\_\_\_\_

## 9 Interview of the Nearest School (بندیہ، تین اسکول میں انٹرویو)

### 9.1 Is open space in the school sufficient?

کیا اسکول میں مختص کردہ کھلی جگہ کافی ہے؟

9.1.1 Yes

ہاں

9.1.2 No

نہیں

9.1.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.1.3.1 \_\_\_\_\_

### 9.2 Is the built space inside sufficient?

کیا اسکول کی داخلی جگہ کافی ہے؟

9.2.1 Yes

ہاں

9.2.1 No

نہیں

9.2.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کو اور کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.2.3.1 \_\_\_\_\_

### 9.3 Where do the children usually play?

بچے عام طور پر کہاں کھیلتے ہیں

9.3.1 In the class rooms

درس گاہ کے ر

9.3.2 In the streets

گیوں میں

9.3.3 In the nearest open space

بندیہ، کھلی جگہوں میں

9.4 Does the school play any role in community development?

کیا سماجی ترقی میں اسکول کا کوئی کردار ہے

9.4.1 Yes

ہاں

9.4.2 No

نہیں

9.4.3 If Yes, what role? \_\_\_\_\_

اگر ہاں تو کیا کردار ہے

9.4.4 If not, why not? \_\_\_\_\_

اگر نہیں تو کیوں نہیں

9.5 As a teacher what is your opinion about the settlement (In order of priority)?

بحیثیت استاد اس آڈی کے رے میں آپ کی کیا رائے ہے (تجربات کے حساب سے)

9.5.1 \_\_\_\_\_

9.5.2 \_\_\_\_\_

9.5.3 \_\_\_\_\_

9.6 What is wrong about the settlement (In order of priority)?

اس آڈی میں کیا ایریا ہیں (تجربات کی بنا پر)

9.6.1 \_\_\_\_\_

9.6.2 \_\_\_\_\_

9.6.3 \_\_\_\_\_

9.7 Do you think that the environment and the houses are conducive to

Healthy living

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مگلا ت صحت مند زندگی کے لیے مہیا ہے۔

9.7.1 Yes

ہاں

9.7.2 No

نہیں

9.8 Do you think that the environment and the houses are conducive to maintain social relationships?

آپ کے خیال میں یہاں کے مگلا ت اور ماحول سماجی تعلقات پر قرار رکھنے کے لیے سازگار ہیں

9.8.1 Yes

ہاں

9.8.2 No

نہیں

9.9 Do you think that the environment and the houses are conducive to educating children?

آپ کے خیال میں یہاں کے مگلا ت اور ماحول بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ہے

9.9.1 Yes

ہاں

9.9.2 No

نہیں

End

ختم شد

-----



**Form Filled By:**

فارم پل کرنے والوں کے م

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\* تاریخ

## Interviews for Apartments

انٹرویو اے آئی پ رٹمنٹس

Questionnaire: 25 Interviews

سوالنامہ ۲۵ انٹرویوز

### 1. Family Information (خاندان کی معلومات)

#### 1.1 Name of respondent

جواب دہ کا نام

#### 1.2 Gender of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی جنس (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.2.1 Male

مرد

1.2.2 Female

عورت

#### 1.3 Age of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی عمر (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

1.3.1 B/w 20 and 29

۲۰ سے ۲۹ کے درمیان

1.3.2 B/w 30 and 39

۳۰ سے ۳۹ کے درمیان

1.3.3 B/w 40 and 49

۴۰ سے ۴۹ کے درمیان

1.3.4 B/w 50 and 59

۵۰ سے ۵۹ کے درمیان

1.3.5 60 and above

۶۰ سے اوپر

#### 1.4 Plot/Street No. (Pls put exact address)

پلاٹ نمبر / گلی نمبر (صحیح پتہ درج کیجئے)

1.5 Living since when (Pls mention specific year)

مدت رہائش (متعلقہ سال درج کیجئے)

1.6 Number of family members living in your apartment

(Pls put the numbers)

خانہ ان کے افراد کی تعداد (نمبر درج کیجئے)

1.6.1 Husband / wife

خانہ / بیوی

1.6.2 Children number / of ages

بچوں کی تعداد و عمر

1.6.3 Grand children number with ages

چچا، پوتی / نواسا / نواسی بمطابق عمر

1.6.4 Others

دیگر افراد

1.6.5 Number of children going to school

اسکول جانے والے بچوں کی تعداد

1.6.6 Working members

سر روزگار افراد کی تعداد

1.6.6.1 Total

کل

1.6.6.2 Women

خواتین

1.6.6.3 What work do they do

روزگار کی نوعیت

1.6.6.3.1 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.2 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.3 \_\_\_\_\_

#### 1.6.6.4 Where do they work?

جائے روزگار

1.6.6.4.1 \_\_\_\_\_

1.6.6.4.2 \_\_\_\_\_

1.6.6.4.3 \_\_\_\_\_

### 1.7 Income

#### 1.7.1 Total income (pls tick the appropriate bracket)

کل آمدنی (صحیح جواب پکٹان لگائیے)

1.7.1.1 B/w 2000 and 4999

۲۰۰۰ سے ۴۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.1.2 B/w 5000 and 7999

۵۰۰۰ سے ۷۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.1.3 B/w 8000 and 10999

۸۰۰۰ سے ۱۰۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.1.4 Above 11,000

۱۱۰۰۰ روپے سے زائد

### 1.8 Expenditure

ذیل کی مد میں اجاات

1.8.1 Food \_\_\_\_\_

(کھانے پینے)

1.8.2 Sewerage \_\_\_\_\_

(نکاسی آب)

1.8.3 Recreation \_\_\_\_\_

سیر و تفریح

1.8.4 Transport \_\_\_\_\_

آمدورفت

1.8.5 Solid Waste Management \_\_\_\_\_

(کوڑا کرے اٹھانے کے لیے)

1.8.6 Maintenance of house \_\_\_\_\_

(گھر کی دیکھ بھال)



1.8.7 Water \_\_\_\_\_  
پانی\*

1.8.8 Health \_\_\_\_\_  
صحت

1.8.9 Others \_\_\_\_\_  
(د)

1.8.10 Electricity \_\_\_\_\_  
(بجلی)

1.8.11 Education \_\_\_\_\_  
تعلیم

## 1.9 Previous residence

سابقہ رہائش

1.9.1 Location \_\_\_\_\_  
پتہ/مقام

1.9.2 Owned \_\_\_\_\_  
ذاتی

1.9.3 Rented \_\_\_\_\_  
کرایہ دار

1.9.4 Other (Pls specify) \_\_\_\_\_  
د (وضا # کیجئے)

1.9.5 Advantages of the previous location (In order of priority)  
سابقہ رہائش کے فوائد (بجیات کی ترتیب سے)

1.9.5.1 \_\_\_\_\_

1.9.5.2 \_\_\_\_\_

1.9.5.3 \_\_\_\_\_

1.9.6 Disadvantages of the previous location (In order of the priority of the most disadvantageous)

سابقہ رہائش کے نقصانات

1.9.6.1 \_\_\_\_\_

1.9.6.2 \_\_\_\_\_

1.9.6.3 \_\_\_\_\_

1.10 Why did you select this project for living?

آپ نے اس پروجیکٹ کو رہائش کے لیے کیوں منتخب کیا؟

1.10.1 Located near job place

روزگار کی جگہ سے دیکھی

1.10.2 Relatives were in the same area

رشتہ داروں بھی اسی علاقے میں رہتے تھے

1.10.3 Cheap price of apt

آپرٹمنٹس کی قیمت بہت کم ہیں

1.10.4 Due to transport availability

ٹرانسپورٹ میسر ہے

1.10.5 Due to water/electricity availability

\* پانی/ بجلی موجود ہے

1.10.6 Paying less rent

کرایہ کم ہے

1.10.7 Other \_\_\_\_\_

د

1.11 Does this apartment provide you any additional income?

کیا اس آپرٹمنٹ کے ذریعے آپ کی اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے؟

1.11.1 Yes

ہاں

1.11.2 No

نہیں

1.11.3 If yes, type of Income

اے ہاں تو آمدنی کی قسم

1.11.3.1 Rented a portion:

مکان کا ایہ حصہ کرایہ پر ہے

1.11.3.2 It has a shop:

مکان میں قائم کردہ دکان

1.11.3.3 Other

د

1.12 Average amount spent on maintaining a apartment, in a year

\* آپرٹمنٹ کی مرمت پر سالانہ خرچ ہونے والی رقم کا اوسط بتائیں

### 1.13 What support is needed for apartment maintenance?

\* آپ رٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے کس طرح کی مدد فراہم ہوتی ہے

1.13.1 credit  
کریڈٹ

1.13.2 technical  
ٹیکنیکل

1.13.3 labor  
مزدور

## 2 Preferences (تہجیات)

### 2.1 If you had a choice what would you chose (Pls tick appropriate)

آپ کو انتخاب کڑ، ہو تو آپ مندرجہ ذیل سے کیا منتخب کریں گے

2.1.1 Living here  
یہاں رہنا

2.1.2 2 rooms/.bath/kitchen on 48 square yards, in New Karachi,  
for Rs-----

نیو کراچی میں ۲۸۰\* میں دو کمروں، تھروم، کچن..... روپے میں

2.1.3 2 rooms/bath/kitchen on 80 square yards, in New Karachi,  
for Rs-----

نیو کراچی میں ۸۰\* میں ۲ کمروں، تھروم، کچن..... روپے میں

### 2.2 Give reasons for your choice (In order of priority)

اپنے انتخاب کی وجوہات بیان کیجئے (تہجیات کی بنا پر)

2.2.1 \_\_\_\_\_

2.2.2 \_\_\_\_\_

2.2.3 \_\_\_\_\_

## 3. Opinion Regarding the Apartment and the Settlement

\* آپ رٹمنٹ اور علاقے کے بارے میں رائے

### 3.1 What is right about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آ. ڈی میں کیا اچھائیاں ہیں (تہجیات کے حساب سے)

3.1.1 \_\_\_\_\_

3.1.2 \_\_\_\_\_

3.1.3 \_\_\_\_\_

3.2 What is wrong about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس \* دی میں کیلہ انیاں ہیں (تجیجات کے حساب سے)

3.2.1 \_\_\_\_\_

3.2.2 \_\_\_\_\_

3.2.3 \_\_\_\_\_

3.3 Highlight any general problems of living in high rises

بلند منزلہ عمارتوں میں رہائش کے عمومی مسائل کی کیا ہی کریں

3.4 Are there issues of privacy, lighting, ventilation?

کیا کچھ مسائل روشنی، ہوا اور پائیویسی سے متعلق ہیں

3.5 How are the open spaces of the complex used, if at all

کمپلیکس کے کھلے حصے کس طرح استعمال ہوتے ہیں

3.5.1 Balconies

\* لکونی کے طور پر

3.5.2 Staircases

سٹیڑھیوں کے طور پر

3.5.3. Corridors

کوئیڈورز کے طور پر

3.5.4 Parking area

\* پارکنگ کے لیے مختص حصہ کے طور پر

3.5.5 Compound

کمپاؤنڈ



## 6. Social Assets سماجی اثاثے

6.1 How long have you been living in this apartment (No. of years)

آپ اس آپارٹمنٹ میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ (کتنے سال سے)

6.2 Relationships built with others over the years.

کیا رہا مدت کے دوران آپ کے دوسروں سے تعلقات استوار ہوئے ہیں

Type قسم	Yes ہاں	No نہیں
Area Councilor علاقے کا کونسلر		
UC Nazim یو 2 کوٹھڑی کا ناظم		
Town Nazim ٹاؤن ناظم		
Politician سیا دان		
Resource persons مشاورین		

6.3 Are these relationships useful for any of the following

کیا یہ تعلقات مندرجہ ذیل کے حساب سے مفید ہیں

Type قسم	Yes ہاں	No نہیں
Getting a job نوکری حاصل کرنے کے لیے		
Admission of children to school اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے		
Relations / problems with police پولیس سے معاملات طے کرنے میں		

Conflict resolution جھگڑوں کے حل کے لیے		
Others د		

6.4 Are your relatives also residing in the same/nearby area.

کیا آپ کے رشتہ دار بھی اسی علاقہ / قریب وجوار میں رہتے ہیں

6.4.1 Yes

ہاں

6.4.2 No

نہیں

6.5 Is there any active CBO involvement in the apartment.

کیا اس علاقے میں کوئی سماجی تنظیم فعال ہے

6.5.1 Yes

ہاں

6.5.2 No

نہیں

6.6 If yes, what is the role of CBOs? (Pls tick the appropriate)

ا/ ہاں تو سی بی او کا کیا کردار ہے (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

6.6.1 Assist in funerals

تدفین کے سلسلے میں معاذ

6.6.2 Provide decoration for marriages

شادی بیاہ کی تقریبات میں تزیینت و آرائش کی سہولیات فراہم کرنا

6.6.3 Lobby for basic services

بسیک سروسز کے لیے لابی کرنا

6.6.4 Assist for admission in schools for children

اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے معاذ

6.6.5 Help in bailouts with police

پولیس سے ضمانت حاصل کرنے میں مدد کرنا

6.6.6 Conflict resolutions

جھگڑوں کے حل کے لیے

6.6.7 Others \_\_\_\_\_

د

3.4 Do you think that apartment and the houses are conducive to: (Pls tick the appropriate)

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مکانات مندرجہ ذیل کے حساب سے مناسبتاً ہیں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

3.4.1 Healthy living

صحت مند زندگی

3.4.2 Social relations

سماجی تعلقات

3.4.3 Raising children

بچوں کی پرورش

3.5 Is your apartment well-ventilated?

کیا آپ کا آپارٹمنٹ مناسبتاً طور پر ہوا دار ہے

3.5.1 Are the kitchen and the washroom(s) well ventilated?

کیا آپ کا درپہن خانہ اور غسل خانہ مناسبتاً طور پر ہوا دار ہے

3.5.2 Are the living and bedrooms of the house airy and

comfortable for living?

کیا لوگ روم اور بیڈ روم ہوا دار اور آرام دہ ہیں؟

3.5.3 Is the apartment:

کیا آپ کا گھر

3.5.3.1 Hot in the summers

موسم آگست میں گرم ہے

3.5.3.2 Cool in the summers

موسم آگست میں سرد ہے

3.5.3.3 Warm in winters

موسم سردی میں گرم ہے

3.5.3.4 Cold in winters

موسم سردی میں ٹھنڈا ہے

3.6 How many of these rooms have:

آپ کے آپارٹمنٹ میں کتنے ایسے کمرے ہیں جن میں

3.6.1 Windows that open to the outside?

کھڑکیاں ہر کی جا سکتی ہیں

3.6.2 No windows at all?

کھڑکیاں موجود نہیں ہیں

3.6.3 Have windows that open very close to the neighbouring apartment?

کھڑکیاں موجود ہیں وہ پڑوسی کے مکان کے قریب کھلتی ہیں

3.7 Are you able to see into your neighbour's apartment or living spaces?

کیا آپ پڑوسی کے اپارٹمنٹ اور رہاؤ جگہوں کو آسانی دیکھ سکتے ہیں

3.7.1 Yes

ہاں

3.7.2 No

نہیں

3.7.3 Does this affect yours or your neighbours' privacy

کیا اس سے آپ کی اور آپ کے پڑوسی کی سہولت متاثر ہوتی ہے

3.7.3.1 Yes

ہاں

3.7.3.2 No

نہیں

3.7.3.3 If so, how?

اے ہاں تو واضح کریں

3.7.3.4 And, how do you cope with it? (Pls explain)

آپ اس مسئلے سے کس طرح بچتے ہیں (وضاحت کریں)

3.8 Do you require space to do economic activity in your apartment?

(Pls tick appropriate)

کیا آپ کو اپنے اپارٹمنٹ میں معاشی سرگرمی کے لیے جگہ درکار ہے؟

3.8.1 Yes

ہاں

3.8.2 No

نہیں

3.8.3 If Yes, what sort of activity/activities? (Pls explain)

اے ہاں، تو سرگرمیوں کی نوعیت بیان کریں؟ (وضاحت کریں)

3.8.3.1 \_\_\_\_\_



3.8.3.2 \_\_\_\_\_

3.8.3.3 \_\_\_\_\_

3.9 Do you do any economic activity in the apartment (Pls tick appropriate)

کیا آپ اپنی رہائش گاہ میں کسی بھی اقتصادی سرگرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

3.9.1 Yes

ہاں

3.9.2 No

نہیں

3.9.3 If yes, (pls mention the type of activity/activities)

اے ہاں (سرگرمیوں کی اقسام بیان کریں)

3.9.3.1 \_\_\_\_\_

3.9.3.2 \_\_\_\_\_

3.9.3.3 \_\_\_\_\_

3.10 Nature of ownership of the apartment: (Pls tick appropriate)

اپنی رہائش گاہ کی ملکیت کی نوعیت بیان کریں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

3.10.1 Owned

ذاتی ملکیت

3.10.2 Tenant

کرایہ دار

3.10.3 Other (Pls specify)

دیگر (بیان کریں)

#### 4. Use of Public Space and Communal Facilities

عوامی جگہوں / کمیوں، سہولیات کا استعمال

4.1 Where do the younger (under 14) play (Pls tick appropriate)

نوجوان (۱۴ سال سے کم عمر) کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر # ن لگائیے)

4.1.1 Park/play grounds

\* پارک / کھیلنے کا میدان

4.1.2 Streets

گلیاں

4.1.3 Any other area Pls specify)

د (وضا # کریں)

4.1.4 Don't play

وہ نہیں کھیلتے

4.2 Where do the older boys play (Pls tick appropriate)

بڑے عمر کے لڑکے کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر # ن لگائیے)

4.2.1 Park/play grounds

\* پارک / کھیلنے کا میدان

4.2.2 Streets

گلیاں

4.2.3 Any other area Pls specify)

د (وضا # کریں)

4.2.4 Don't play

وہ نہیں کھیلتے

4.3 Are there any problems for women an girls regarding games/recreation, meeting?

کیا لڑکیوں اور خواتین کو کھیل، تفریح، 5 تا توں کے لیے مسائل درپیش ہیں؟

4.3.1 Yes

ہاں

4.3.2 No

نہیں

4.3.3 If yes, what are they? (In order of priority)

ا ہاں، تو مسائل بیان کریں (تہجیات کے حساب سے)

4.3.3.1 \_\_\_\_\_

4.3.3.2 \_\_\_\_\_

4.3.3.3 \_\_\_\_\_

#### 4.4 How can they be solved? (In order of priority)

ان مسائل کا حل کیا ہے؟ (پہلی چیز کے حساب سے)

4.4.1 \_\_\_\_\_

4.4.2 \_\_\_\_\_

4.4.3 \_\_\_\_\_

#### 4.5 Where do you do your household shopping ?

آپ گھر کی خریداری کہاں سے کرتے ہیں

4.5.1 \_\_\_\_\_

4.5.2 \_\_\_\_\_

4.5.3 \_\_\_\_\_

#### 4.6 Do you go out of the apartment for recreation?

کیا آپ اپارٹمنٹ سے باہر تفریح کے لیے جاتے ہیں

4.6.1 Yes

ہاں



4.6.2 No  
نہیں

4.6.3 If yes  
اے ہاں تو

4.6.3.1 Where do you go?  
کس مقام پر؟

4.6.3.2 How often do you go?  
کتنی بار جاتے ہیں؟

4.6.3.3 Do you go as a family?  
کیا آپ خاندان کے ہمراہ جاتے ہیں؟

4.6.3.4 How much do you spend on one visit?  
ایہ جگہ پر جاتے وقت آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟

---

4.7 Is there a marriage/shadi/community hall in the area?  
کیا اس علاقے میں کوئی شادی ہال / کمیونٹی ہال واقع ہے؟

4.7.1 Yes  
ہاں

4.7.2 No  
نہیں

4.8 How often do you go to the shadi/community hall?  
آپ یہاں کتنی بار جاتے ہیں؟

4.9 Is the shadi / community hall used for any other purpose besides  
weddings?

کیا شادی ہال / کمیونٹی ہال کا استعمال شادی کی تقریبات کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟

4.9.1 Yes  
ہاں

4.9.2 No  
نہیں



4.9.3 If yes what's that

اے ہاں تو کس لیے

4.9.3.1 \_\_\_\_\_

4.9.3.2 \_\_\_\_\_

4.9.3.3 \_\_\_\_\_

4.10 Do you use the streets or other open spaces as gathering places of the community (or community center) in the area?

کیا پلاٹ میں قائم آپ گلیوں اور کھلی جگہوں کو اجتماعی تقریبات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

4.10.1 Yes

ہاں

4.10.2 No

نہیں

4.11 If yes do you use it (Pls tick appropriate)

اے ہاں تو کیا آپ ان کا استعمال کرتے ہیں؟ (صحیح جواب پر ن لگائیے)

4.11.1 How many times

کتنی بار

4.11.2 What for?

کس لیے

4.12 Do women gather at this place as well?

کیا خواتین بھی یہاں جمع ہوتی ہیں

4.12.1 Yes

ہاں

4.12.2 No

نہیں

4.12.3 If No, why not?

اے نہیں تو کیوں نہیں

4.12.3.1 \_\_\_\_\_

4.12.3.2 \_\_\_\_\_

4.12.3.3. \_\_\_\_\_

4.13 And do they need a separate community centre?

کیا خواتین کو اپنے لیے الگ سماجی مراکز کی ضرورت ہے؟

4.13.1 Yes

ہاں

4.13.2 No

نہیں

**End**

## 9 Interview of the Nearest School (بندوب، تين اسكول ميں انٽرويو)

### 9.1 Is open space in the school sufficient?

كيا اسكول ميں مختص كردہ كھلي جگہ كافي ہے؟

9.1.1 Yes

ہاں

9.1.2 No

نہیں

9.1.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.1.3.1 \_\_\_\_\_

### 9.2 Is the built space inside sufficient?

كيا اسكول كى داغلى جگہ كافي ہے؟

9.2.1 Yes

ہاں

9.2.1 No

نہیں

9.2.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کو اور کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.2.3.1 \_\_\_\_\_

### 9.3 Where do the children usually play?

بچے عام طور پر کہاں کھیلتے ہیں

9.3.1 In the class rooms

درس گاہ کے ر

9.3.2 In the streets

گلیوں میں

9.3.3 In the nearest open space

بندوب کی کھلی جگہوں میں

### 9.4 Does the school play any role in community development?

کیا سماجی - قی میں اسکول کا کوئی کردار ہے

9.4.1 Yes

ہاں

9.4.2 No

نہیں

9.4.3 If Yes, what role? \_\_\_\_\_

اے ہاں تو کیا کردار ہے

9.4.4 If not, why not? \_\_\_\_\_

اے نہیں تو کیوں نہیں

9.5 As a teacher what is your opinion about the apartment (In order of priority)?

بجائیت استاد اس اپارٹمنٹ کے رے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ (بجائیت کے حساب سے)

9.5.1 \_\_\_\_\_

9.5.2 \_\_\_\_\_

9.5.3 \_\_\_\_\_

9.6 What is wrong about the apartments and the settlement (In order of priority)?

اس اپارٹمنٹ میں کیا ہے۔ ایساں ہیں۔ (بجائیت کی بنا پر)

9.6.1 \_\_\_\_\_

9.6.2 \_\_\_\_\_

9.6.3 \_\_\_\_\_



9.7 Do you think that to Healthy living

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول صحت مند بننے کے لیے مناسب ہے۔

9.7.1 Yes

ہاں

9.7.2 No

نہیں

9.8 Do you think that apartment living is conducive to maintaining social relationships?

آپ کے خیال میں یہاں کے آپرٹمنٹس اور ماحول سماجی تعلقات میں ترقی دہاں کے لیے سازگار ہیں۔

9.8.1 Yes

ہاں

9.8.2 No

نہیں

9.9 Do you think that apartment living affects educating children in any way?

آپ کے خیال میں یہاں کے آپرٹمنٹس اور ماحول بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ہے۔

9.9.1 Yes

ہاں

9.9.2 No

نہیں

End

ختم شد

## Interviews for Paposh Nagar Study

انٹرویو۔ اے\* پپوش نگر اسٹڈی

Questionnaire: 75 Interviews

سوالنامہ ۷۵ انٹرویوز

### 1. Family Information (خانہ ان کی معلومات)

#### 1.1 Name of respondent

جواب دہ کا نام

#### 1.2 Gender of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی جنس (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

1.2.1 Male

مرد

1.2.2 Female

عورت

#### 1.3 Age of the respondent (Pls tick appropriate)

جواب دہ کی عمر (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

1.3.1 B/w 20 and 29

۲۰ سے ۲۹ کے درمیان

1.3.2 B/w 30 and 39

۳۰ سے ۳۹ کے درمیان

1.3.3 B/w 40 and 49

۴۰ سے ۴۹ کے درمیان

1.3.4 B/w 50 and 59

۵۰ سے ۵۹ کے درمیان

1.3.5 60 and above

۶۰ سے اوپر

#### 1.4 Plot/Street No. (Pls put exact address)

پلاٹ نمبر 1 گلی نمبر (صحیح پتہ درج کیجئے)

1.5 Living since when (Pls mention specific year)

مدت رہائش (متعلقہ سال درج کیجئے)

1.6 Number of family members living in your house (Pls put the numbers)

خانہ ان کے افراد کی تعداد (نمبر درج کیجئے)

1.6.1 Husband / wife

خاتون / بیوی

1.6.2 Children number / of ages

بچوں کی تعداد و عمر

1.6.3 Grand children number with ages

پوتے، پوتیاں، نواسا، نواسیاں، بھتیجے

1.6.4 Others

دیگر افراد

1.6.5 Number of children going to school

اسکول جانے والے بچوں کی تعداد

1.6.6 Working members

سر روزگار افراد کی تعداد

1.6.6.1 Total

کل

1.6.6.2 Women

خواتین

1.6.6.3 What work do they do

روزگار کی نوعیت

1.6.6.3.1 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.2 \_\_\_\_\_

1.6.6.3.3 \_\_\_\_\_

1.6.7 Where do they work?

جائے روزگار

1.6.7.1 \_\_\_\_\_

1.6.7.2 \_\_\_\_\_

1.6.7.3 \_\_\_\_\_

### 1.7 Total income (pls tick the appropriate bracket)

کل آمدنی (صحیح جواب پیکان لگائیے)

1.7.1 B/w 2000 and 4999   
۲۰۰۰ سے ۴۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.2 B/w 5000 and 7999   
۵۰۰۰ سے ۷۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.3 B/w 8000 and 10999   
۸۰۰۰ سے ۱۰۹۹۹ روپے کے درمیان

1.7.4 Above 11,000   
۱۱,۰۰۰ روپے سے زائد

### 1.8 Income spent on transport (pls tick the appropriate bracket)

ان اجازتوں کے آمدورفت

1.8.1 B/w 1000 and 1999   
۱۰۰۰ سے ۱۹۹۹ روپے کے درمیان

1.8.2 B/w 2000 and 2999   
۲۰۰۰ سے ۲۹۹۹ روپے کے درمیان

1.8.3 B/w 3000 and 4999   
۳۰۰۰ سے ۴۹۹۹ روپے کے درمیان

1.8.4 Above 5,000   
۵,۰۰۰ روپے سے زائد

### 1.9 Previous residence

گذشتہ رہائش

1.9.1 Location

پتہ/مقام

1.9.2 Owned

ذاتی

### 1.9.3 Rented

کرایہ دار

### 1.9.4 Other (Pls specify)

د (وضا # کیجئے)

## 1.9 Advantages at the current location (In order of priority)

رہائش کے فوائد (ترجیحات کی ترتیب)

1.9.1 \_\_\_\_\_

1.9.2 \_\_\_\_\_

1.9.3 \_\_\_\_\_

## 1.10 Disadvantages, current location (In order of the priority of the most disadvantageous)

نقصات

1.10.1 \_\_\_\_\_

1.10.2 \_\_\_\_\_

1.10.3 \_\_\_\_\_

## 2 Preferences (ترجیحات)

### 2.1 If you had a choice what would you chose (Pls tick appropriate)

اگر آپ کو انتخاب کڑ، ہو تو آپ مندرجہ ذیل سے کیا منتخب کریں گے

#### 2.1.1 80 square yards in Khuda Ki Basti for Rs-----

: اکی ہستی میں ۸۰ کا پلاٹ ..... روپے میں

##### 2.1.1.1 Monthly instalment -----

..... روپے ماہانہ اقساط

#### 2.1.2 48 square yards in Baldia for Rs-----

بلدیہ میں ۴۸ کا پلاٹ ..... روپے میں

##### 2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

..... روپے ماہانہ اقساط

#### 2.1.3 2 room flat in New Karachi at Rs-----

نئی کراچی میں ۲ کمروں کا فلیٹ ..... روپے میں



2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

.....روپے ماہانہ اقساطی

2.1.4 A 120 square yards plot in Ittehad Town

.....روپے میں اتحاد، ون میں ۱۲۰ کا پلاٹ

2.1.2.1 Monthly instalment Rs -----

.....روپے ماہانہ اقساطی

2.1.5 Your current house in Paposh Nagar

\* پپوش نگر میں آپ کا موجودہ گھر

2.1.6 A redesigned house in Paposh Nagar

\* پپوش نگر میں نئے سرے سے تعمیر شدہ مکان

2.1.7 What would the redesign include

نئے ڈیزائن میں کیا شامل ہوگا

2.2 Give two reasons for your choice (In order of priority)

اپنے انتخاب کی ۲ وجوہات بیان کیجئے (ترتیباً جہات کی بنا پر)

2.2.1 \_\_\_\_\_

2.2.2 \_\_\_\_\_

**3 Views about the Area and Houses** علاقے اور گھر کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر

3.1 Why would you choose to continue to live in this area and house

آپ اس گھر اور علاقے میں رہنے کا انتخاب کیوں کریں گے

3.1.1 It is near to your place of work

کیا یہ آپ کے کام کرنے کی جگہ سے قریب ہے؟

3.1.2 Your relatives/clan live in this area

آپ کے رشتہ دار/قبیلہ اس علاقے میں رہتے ہیں

3.1.3 The amenities in the area are good

بہتر شہری سہولیات میسر ہیں

3.1.4 You have an association with the ancestral home

آپ کی اپنے گھر سے وابستگی پائی جاتی ہے

3.2 What is right about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس کی دی میں کیا اچھائیاں ہیں (ترتیباً جہات کے حساب سے)

3.2.1 \_\_\_\_\_

3.2.2 \_\_\_\_\_

3.2.3 \_\_\_\_\_

3.3 What is wrong about the settlement (In order of priority)

آپ کے خیال میں اس آدی میں کیلئے کیا چیزیں ہیں (تہجیات کے حساب سے)

3.3.1 \_\_\_\_\_

3.3.2 \_\_\_\_\_

3.3.3 \_\_\_\_\_

3.4 Do you think that the environment and the houses are conducive to: (Pls

tick the appropriate)

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مکانات مندرجہ ذیل کے حساب سے مناسبت ہیں (صحیح جواب پر ٹیک لگائیے)

3.4.1 Healthy living

صحت مند زندگی

3.4.2 Social relations

سماجی تعلقات

3.4.3 Raising children

بچوں کی پرورش

3.5 Is your house well-ventilated?

کیا آپ کا گھر مناسبت سے ہوا دار ہے

3.5.1 Are the kitchen and the washroom(s) well ventilated?

کیا آپ کا کچن اور غسل خانہ مناسبت سے ہوا دار ہے

3.5.2 Are the living and bedrooms of the house airy and

comfortable for living?

کیا لوگ روم اور بیڈ روم ہوا دار اور آرام دہ ہیں؟

3.5.3 Is the house:

کیا آپ کا گھر

3.5.3.1 Hot in the summers

موسم آما میں تہج ہے

### 3.5.3.2 Cool in the summers

موسم آما میں سرد ہوتا ہے

### 3.5.3.3 Warm in winters

موسم سرما میں آما رہتا ہے

### 3.5.3.4 Cold in winters

موسم سرما میں ٹھنڈا رہتا ہے

## 3.6 How many of these rooms have:

آپ کے مکان میں کتنے ایسے کمرے میں جن میں

### 3.6.1 Windows that open to the outside?

کھڑکیاں ہر کی جا؟ کھلتی ہیں

### 3.6.2 No windows at all?

کھڑکیاں موجود نہیں ہیں

### 3.6.3 Have windows that open very close to the neighbouring house?

کھڑکیاں موجود ہیں وہ پڑوسی کے مکان کے قریب کھلتی ہیں

## 3.7 Are you able to see into your neighbour's house or living spaces?

کیا آپ پڑوسی کے مکان اور رہاؤ جگہوں کو آسانی دیکھ سکتے ہیں

### 3.7.1 Yes

ہاں

### 3.7.2 No

نہیں

### 3.7.3 Does this affect yours or your neighbours' privacy

کیا اس سے آپ کی اور آپ کے پڑوسی کی آسائش متاثر ہوتی ہے

#### 3.7.3.1 Yes

ہاں

#### 3.7.3.2 No

نہیں

#### 3.7.3.3 If so, how?

آہاں تو واضح کریں

#### 3.7.3.4 And, how do you cope with it? (Pls explain)

آپ اس مسئلے سے کس طرح بچتے ہیں (وضاحت کریں)

3.8 Do you require space to do economic activity in your house? (Pls tick appropriate)

کیا آپ کو اپنے گھر میں معاشی سرآمی کے لیے جگہ درکار ہے؟

3.8.1 Yes   
ہاں

3.8.2 No   
نہیں

3.8.3 If Yes, what sort of activity/activities? (Pls explain)  
اآ ہاں، تو سرآمی اسرآمیوں کی نوعیت بیان کریں؟ (وضا # کریں)

3.8.3.1 \_\_\_\_\_

3.8.3.2 \_\_\_\_\_

3.8.3.3 \_\_\_\_\_

3.9 Do you do any economic activity in the house? (Pls tick appropriate)

کیا آپ گھر کو معاشی سرآمی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

3.9.1 Yes   
ہاں

3.9.2 No   
نہیں

3.9.3 If yes, (pls mention the type of activity/activities)  
اآ ہاں (سرآمی اسرآمیوں کی اقسام بیان کریں)

3.9.3.1 \_\_\_\_\_

3.9.3.2 \_\_\_\_\_

3.9.3.3 \_\_\_\_\_

3.10 Nature of ownership of the house: (Pls tick appropriate)

مکان کی ملکیت کی نوعیت بیان کریں (صحیح جواب دیکھ کر ن لگائیے)

3.10.1 Owned   
ذاتی ملکیت

3.10.2 Tenant   
کرایہ دار

3.10.3 Other (Pls specify)   
دی (بیان کریں)

3.11 What is the total number of rooms (living and bedrooms) in the house?

مکان میں کل کمروں کی تعداد (لوہ اور بیڈروم)

3.12 Total area (in sq yards) \_\_\_\_\_  
کل رقبہ (فی مربع /)

3.13 No. of families \_\_\_\_\_  
خانوں کی تعداد

3.14 Roof construction (Pls tick appropriate)

چھت کی ساخت

3.14.1 RCC   
آر سی سی (پکی چھت)

3.14.2 Tiles   
ٹائلز\*

3.14.3 G.I   
جی آئی (دھات)

3.14.4 Asbestos \_\_\_\_\_   
اسبستوس

3.15 Does this house provide you any additional income?

کیا اس مکان کے ذریعے آپ کی اضافی آمدنی حاصل ہوتی ہے



3.15.1 Yes   
ہاں

3.15.2 No   
نہیں

3.15.3 If yes, type of Income   
آ ہاں تو آمدنی کی قسم

3.15.3.1 Rented a portion:   
کان کا ایہ حصہ کرایہ پر ہے

3.15.3.2 It has a shop:   
مکان میں قائم کردہ دکان

3.15.3.3 Other   
د

3.16 Front or nearby space of house is used for  
مکان کا اگلا حصہ\* اطراف کی جگہ ذیل کے لیے استعمال ہوتی ہے

3.16.1 Vending   
دکان داری کے لیے

3.16.2 Animals/Cattle   
مال مویشی پر

3.16.3 Cloth Washing   
کپڑوں کی دھلائی کے لیے

3.16.4 Storage purpose   
ذخیرہ کرنے کے لیے

3.16.5. Other   
د

3.17 Average amount spent on maintaining a house, in a year  
مکان کی مرمت پر سالانہ خرچ ہونے والی رقم کا اوسط بتانا

3.18 From where you get the money for maintenance?  
مرمت کے لیے آپ رقم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟

3.18.1 Personal saving   
ذاتی بچت کے ذریعے

3.18.2 Selling of assets   
بے شیے کر

3.18.3 Credit informal   
غیر رسمی قرضے کے ذریعے

3.18.4 Credit formal   
رسمی قرضے کے ذریعے

3.18.5 Credit thalla as material   
تھلے والے سے مال بطور قرضہ

3.19 Do you have plans for further construction.

کیا آپ کامزید تعمیرات کا منصوبہ ہے

3.19.1 Yes   
ہاں

3.19.2 No   
نہیں

#### 4. Use of Public Space and Communal Facilities

عوامی جگہوں / کمیونٹی سہولیات کا استعمال

4.1 Where do the younger (under 14) play (Pls tick appropriate)

نوجوان (۱۴ سال سے کم عمر) کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

4.1.1 Park/play grounds   
پارک / کھیلنے کا میدان \*

4.1.2 Streets   
گلیاں

4.1.3 Any other area Pls specify)  
دوسرا (وضاحت # کریں)

4.1.4 Don't play   
وہ نہیں کھیلتے

4.2 Where do the older boys play (Pls tick appropriate)

بڑے لڑکے کہاں کھیلتے ہیں (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

4.2.1 Park/play grounds   
پارک / کھیلنے کا میدان \*

4.2.2 Streets   
گلیاں

4.2.3 Any other area Pls specify)  
د (وضا # کریں)

4.2.4 Don't play   
وہ نہیں کھیلتے

4.3 Are there any problems for women an girls regarding games/recreation,  
meeting?

کیا لڑکیوں اور خواتین کو کھیل، تفریح، 5 تا توں کے لیے مسائل درپیش ہیں؟

4.3.1 Yes   
ہاں

4.3.2 No   
نہیں

4.3.3 If yes, what are they? (In order of priority)  
ا / ہاں، تو مسائل بیان کریں (تہجیات کے حساب سے)

4.3.3.1 \_\_\_\_\_

4.3.3.2 \_\_\_\_\_

4.3.3.3 \_\_\_\_\_

4.4 How can they be solved? (In order of priority)  
ان مسائل کا حل کیا ہے (تہجیات کے حساب سے)

4.4.1 \_\_\_\_\_

4.4.2 \_\_\_\_\_

4.4.3 \_\_\_\_\_

4.5 Where do you do your household shopping ?

آپ گھر کی خریداری کہاں سے کرتے ہیں

4.5.1 \_\_\_\_\_

4.5.2 \_\_\_\_\_

4.5.3 \_\_\_\_\_

4.6 Do you go out of the settlement for recreation?

کیا آپ \* دکرده علاقے سے ہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں

4.6.1 Yes

ہاں

4.6.2 No

نہیں

4.6.3 If yes

اے ہاں تو

4.6.3.1 Where do you go?

کس مقام پر؟

4.6.3.2 How often do you go?

کتنی بار جاتے ہیں؟

4.6.3.3 Do you go as a family?

کیا آپ خاندان کے ہمراہ جاتے ہیں؟

4.6.3.4 How much do you spend on one visit?

ای- \*۔ رجانے میں آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟

4.7 Is there a marriage/shadi/community hall in the area?

کیا اس علاقے میں کوئی شادی ہال / کمیو، ہال واقع ہے؟

4.7.1 Yes

ہاں

4.7.2 No

نہیں

4.8 How often do you go to the shadi/community hall?

آپ یہاں کتنی بار جاتے ہیں؟

4.9 Is the shadi / community hall used for any other purpose besides weddings?

کیا شادی ہال / کمیو، ہال کا استعمال شادی کی تقریبات کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟

4.9.1 Yes

ہاں

4.9.2 No

نہیں

4.9.3 If yes what's that

اگر ہاں تو کس لیے

4.9.3.1 \_\_\_\_\_

4.9.3.2 \_\_\_\_\_

4.9.3.3 \_\_\_\_\_

4.10 Do you use the streets or other open spaces as gathering places of the community (or community center) in the Nawalane?

کیا نوالین میں آپ گلیوں اور کھلی جگہوں کو اجتماعی تقریبات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

4.10.1 Yes

ہاں



4.10. 2 No  
نہیں

4.11 If yes do you use it (Pls tick appropriate)

اے ہاں تو کیا آپ ان کا استعمال کرتے ہیں؟ (صحیح جواب پر ن لگائیے)

4.11.1 How many times  
کتنی بار

4.11.2 What for?  
کس لیے

4.12 Do women gather at this place as well?

کیا خواتین بھی یہاں جمع ہوتی ہیں

4.12.1 Yes  
ہاں

4.12.2 No  
نہیں

4.12.3 If No, why not?  
اے نہیں تو کیوں نہیں

4.12.3.1 \_\_\_\_\_

4.12.3.2 \_\_\_\_\_

4.12.3.3. \_\_\_\_\_

4.13 And do they need a separate community centre?

کیا خواتین کو اپنے لیے الگ سماجی مراکز کی ضرورت ہے؟

4.13.1 Yes  
ہاں

4.13.2 No  
نہیں

## 5. Social Assets (سماجی اثاثے)

5.1 How long have you been living in this settlement? (No. of years)

آپ اس آڈی میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ (کتنے سال سے)

## 5.2 Relationships built with others over the years.

کیا رہا مدت کے دوران آپ کے دوسروں سے تعلقات استوار ہوئے ہیں

5.2.1 Yes

ہاں

5.2.2 No

نہیں

## 5.3 Are these relationships useful for any of the following?

کیا یہ تعلقات مندرجہ ذیل کے حساب سے مفید ہند ہیں

Type نوعیت	Yes ہاں	No نہیں
Getting a job نوکری حاصل کرنے کے لیے		
Admission of children to school اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے		
Relations / problems with police پولیس سے معاملے کرنے میں		
Conflict resolution جھگڑوں کے حل کے لیے		
Others د		

## 5.4 If yes, what is the role of CBOs? (Pls tick the appropriate)

آ ہاں تو سی بی او کا کیا کردار ہے (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

5.4.1 Assist in funerals

تدفین کے سلسلے میں معاذ

5.4.2 Provide decoration for marriages

شادی بیاہ کی تقریبات میں مینڈی و آرائش کی سہولیات فراہم کرنا

5.4.3 Lobby for basic services

بسیک سہولیات کے لیے لابی کرنا

5.4.4 Assist for admission in schools for children

اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے معاذ

5.4.5 Help in bailouts with police

پولیس سے ضمانت حاصل کرنے میں مدد کرنا

5.4.6 Conflict resolutions

جھگڑوں کے حل کے لیے

5.4.7 Others \_\_\_\_\_

د

5.5 Do you get monthly or daily household goods on loan from shopkeeper?

کیا آپ دکان دار سے ماہانہ یا روزانہ کی چیزیں پھانسیاں ادھار لیتے ہیں

5.5.1 Yes

ہاں

5.5.2 No

نہیں

5.6 Do you have a saving committee / group saving?

کیا آپ کے علاقے میں بچت کمیٹی یا اجتماعی بچت کا طریقہ کار موجود ہے

5.6.1 Yes

ہاں

5.6.2 No

نہیں

6. What is the role of NGO's in your area? (Pls tick the appropriate)

آپ کے ادارے میں غیر سرکاری تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ (صحیح جواب پر ٹیکہ لگائیے)

6.1 Govt. substitute

سرکاری اداروں کا متبادل

6.2 Govt. support

حکومتی اداروں کی حمایت

6.3 Individual capacity

ادنی کام

7 Being an old area of the city, Paposh is important to you?

شہر کا ایک قدیم علاقہ ہونے کے لیے پاپوش آپ کے لیے اہم ہے

7.1 Yes

ہاں

7.2 No

نہیں

7.3 If yes what is the importance (in order of priority)

اے ہاں تو اہمیت کی وجہ بیان کریں (ترتیب حیات کے حساب سے)

7.3.1 \_\_\_\_\_

7.3.2 \_\_\_\_\_

7.3.3. \_\_\_\_\_

8 Immediate further developments are required in which of the following sectors (Pls tick one of top most priority)

مندرجہ ذیل میں سے کن شعبوں فوری ترقی کی ضرورت ہے

8.1 Education

تعلیم

8.2 Health

صحت

8.3 Roads

سڑکیں

8.4 Water & sanitation

صاف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کی نکاسی

8.5 Solid waste disposal

کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا

8.6 Other (Pls specify)

دوسرا (وضاحت کریں)

8.6.1 \_\_\_\_\_

Form Filled By:

Date:

## Interviews for Paposh Nagar Study

### انٹرویو۔ اے\* پپوش نگر اسٹڈی

#### 9 Interview of the Nearest School (بندیا، تین اسکول میں انٹرویو)

##### 9.1 Is open space in the school sufficient?

کیا اسکول میں مختص کردہ کھلی جگہ کافی ہے؟

9.1.1 Yes

ہاں

9.1.2 No

نہیں

9.1.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.1.3.1 \_\_\_\_\_

##### 9.2 Is the built space inside sufficient?

کیا اسکول کی داخلی جگہ کافی ہے؟

9.2.1 Yes

ہاں

9.2.1 No

نہیں

9.2.3 If No, how much space do you need? (Pls explain)

اے نہیں، تو آپ کو اور کتنی جگہ درکار ہے؟ (وضا # کریں)

9.2.3.1 \_\_\_\_\_

##### 9.3 Where do the children usually play?

بچے عام طور پر کہاں کھیلتے ہیں

9.3.1 In the class rooms

کلاس روم کے ر

9.3.2 In the streets

گلیوں میں

9.3.3 In the nearest open space

بندیا، تین کھلی جگہوں میں



9.4 Does the school play any role in community development?

کیا سماجی ترقی میں اسکول کا کوئی کردار ہے

9.4.1 Yes

ہاں

9.4.2 No

نہیں

9.4.3 If Yes, what role? \_\_\_\_\_

اگر ہاں تو کیا کردار ہے

9.4.4 If not, why not? \_\_\_\_\_

اگر نہیں تو کیوں نہیں

9.5 As a teacher what is your opinion about the settlement (In order of priority)?

بجائیت استاد اس آدی کے رے میں آپ کی کیا رائے ہے (تجیجات کے حساب سے)

9.5.1 \_\_\_\_\_

9.5.2 \_\_\_\_\_

9.5.3 \_\_\_\_\_

9.6 What is wrong about the settlement (In order of priority)?

اس آدی میں کیلہ اییاں ہیں (تجیجات کی بنا پر)

9.6.1 \_\_\_\_\_

9.6.2 \_\_\_\_\_

9.6.3 \_\_\_\_\_

9.7 Do you think that the environment and the houses are conducive to

Healthy living

آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول اور مگلات صحت مند بننے گی کے لیے مناسب ہے۔

9.7.1 Yes

ہاں

9.7.2 No

نہیں

9.8 Do you think that the environment and the houses are conducive to maintain social relationships?

آپ کے خیال میں یہاں کے مگلات اور ماحول سماجی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے سازگار ہیں

9.8.1 Yes

ہاں

9.8.2 No

نہیں

9.9 Do you think that the environment and the houses are conducive to educating children?

آپ کے خیال میں یہاں کے مگلات اور ماحول بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ہے

9.9.1 Yes

ہاں

9.9.2 No

نہیں

Form Filled By:

Date: